

# پاگی میتا مکتبہ

(فارسی)

حضرت حاجی دوست محمد

قندھاری، قدس سرہ

موسی زرق شریف

مکتوبات و قوائد عثمانیہ

ملنے کا پتہ

حافظ محمد فضل اللہ خان خاکوائی زین الداری قدس سرہ آباد

تحصیل دفعہ بہادر نگر، بہادر لورڈ ویٹن:

علاوه غیرہ اک دخچ پر ۳ رپے



ت

# مکتوبات حضرت حاجی دوست محمد قدر صاری

قدس سرہ

حسب الارشاد

حضرت صاحبزادہ محمد زادہ صاحب بن خواجہ محمد سراج الدین  
قدس سرہ مولیٰ نبی شریف

تصحیح

فیرعطا محمد کان اللہ ساکن چودھویں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

بہنسن توجہ

حافظ محمد صریش خاں خاکواني ساکن کڑی افغانان ملتان

ناشر

حافظ محمد یوسف خان و برادرانش پسران حافظ صاحب محب صوفی سلیمان رہنم  
طبع

مطبع صدیقیہ بیرون بوہرگیٹ ملتان شہر

تعداد ۱۰۰

نار اول

# فہرستِ مکاتیب پیر شریفہ

نمبر

۱	مکتوب اول بنام خلیفہ محمد جانان ساکن مرغہ
۲	مکتوب دوم بنام ملا امان اشر خلیفہ ہراتی
۳	مکتوب سوم ایضاً بنام خلیفہ صاحب ہراتی
۴	مکتوب چہارم ایضاً
۵	مکتوب پنجم بحضرت پیر دستگیر خود شاہ احمد سعید
۶	صاحب مجددی دہلوی ثم الہمنی قدس اسرارہ
۷	مکتوب ششم بنام ملا محمد جانان ساکن مرغہ
۸	مکتوب هفتم ایضاً
۹	مکتوب بیست و سوم بنام خلیفہ ملا امان اشر صاحب ہراتی
۱۰	مکتوب نهم بحضرت پیر و مرشد خویش قدس سرہ
۱۱	مکتوب دیکم بنام خلیفہ مولوی محمد عادل حسن کاظم
۱۲	مکتوب یازد کم ایضاً
۱۳	مکتوب دوازد کم بخلیفہ ملا ہبیت اخوندزادہ ہرپال کیفری
۱۴	مکتوب سیزده کم بنام مولوی محمد عادل صاحب کاظم (ڈوب)
۱۵	مکتوب چہارده کم بنام ملا ہبیت اخوندزادہ شاہ صاحب
۱۶	مکتوب پانزدہ کم بکلاراز محمد اخوندزادہ صاحب قندھاری
۱۷	مکتوب بیست و نهم بنام قاضی یحییٰ شاہ صاحب
۱۸	مکتوب بیست و سیم بنام مولوی عبیضہ صاحب تاریخ وصال
۱۹	مکتوب بیست و ششم بنام سید جید
۲۰	مکتوب بیست و سیم بنام قاضی یحییٰ شاہ صاحب
۲۱	مکتوب بیست و سیم بنام مولوی شیر محمد کلاچوی کہ مجاز حضرت بودند

یک مکتوب متبرک کہ بنام پیرزادہ شاہ روف احمد قدس سرہ از سخنخط خلیفہ جلیل  
تلیمہ القدر حضرت خواجہ عثمان قدس سرہ بوده است ایں مکتوب شریف رجموعہ نبود مقدمہ درج  
کردہ شدہ است۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحہ راجیین ۷

# مختصر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْكَلِّ دُلُّ الَّذِي أَوْضَعَهُ سُبْلُ هَدَايَتِهِ بِالنَّوْاْتِ الْقَلْسِيَّةِ اَدَمْ شَعَارُ شَرِيعَةِ فِي عِبَادَةِ  
بِالنُّفُوسِ الْمُطَهَّرَةِ شَرْفُهُمْ اِلَّا تَعْالَى بِجَمِيلِ اهْمَانَتِهِ الْمُنْزَلَةُ عَلَى اَبْنِيَائِهِ وَجَعَلَهُمْ مَعْجَزَةً بِاَقِيَّةِ  
مِنْ مَعْجَزَاتِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى اَبْنِيَائِهِ وَاصْفِيَائِهِ وَابْنَاءِ عَهْدِهِ خَصْوَصَةً عَلَى دَلِيلِ  
الْاَدَلِينِ وَالْاَخْرَيْنِ خَاتَمُ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّينَ سَيِّدُ الْاَبْنِيَاءِ وَالْاَصْفِيَاءِ فِي الْاَوَّلِيَّةِ وَالْاَخْرَيَّةِ وَعَلَى  
اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَابْنَاءِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

اما بعد ، فقيير عطا محمد عضي عنده عرض مي دارد که عنایت بے علت خداوندی جل مجد چوں بنند را در  
خدمت با پرکت حضرت شیخ مرکز النسبتة العالية المجدیه هادینا و مرشدنا الحاج محمد عبد الشد نور است تعالیٰ مرقدہ  
رسانید قدر معتر بها از اوقات سعید در خدمت عالیم ایشان گذرانیده دفاترسته از مکتوبات حضرت المجد  
والخواجہ محمد معصوم قدس سرها در خدمت شیخ سبق اخوانهند نیمی رسائل دیگر از حضرات سلسلہ شریفہ که معمول  
غالقاہ شریف سراجیه محمد زیر پوره است .

علی العیوم حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فادہ معارف خصوصیہ حضرات کرام فقیر رادر مجالس  
خصوصیہ می نواضنہ فقیر ایں فوائد راحسب الارشاد بقید کتابت می آورد . والحمد للہ علی الغفار رونے  
ارشاد فرمودنکہ رسالہ مبارکہ " تحفہ سعدیہ " را شخص کرده از سر نوہنیں مگر دراد ( برخلاف طریقہ کرامات  
ظاہرہ نوہنیں کان ) ذکر خوارق مخصوصہ حضرات کرام را نصب العین کرده شود یعنی علوم و معارف کہ  
ایشان صدر یافتہ و متعلق بتوضیح مقامات طریقہ اندر کہ ہمیں علوم مخصوصہ آئینہ کمالات ایشانہ و  
بطیفیل ہمیں علوم شریفہ ایشان بقا طریقہ بلکہ تکمیل آئی حاصل است و ہمیں علوم از کہ ارباب طریقت  
رامو حب بصریت می باشند و معیار صحبت و سقیم احوال ایشان می گردند پس اہتمام بعلوم نافعہ حضرات  
اہم تر است از ذکر خوارق ظاہرہ ایشان - ام

از ایں ارشاد پر حقیقت سر التزام کرن مشارخ بر تکار مکاتیب و سائل حضرات باطلیہ واضح می شوکہ مشائخ  
بطوی شغلے از اشغال طریقہ درس و تدریس مکاتیب حضرات مقرر فرمودہ اندر .

تفصیل ایں اجمال آنکہ مدارس لوک طریقہ حضرات مجذبیہ بر توجہات مشائخ است کہ بتوجہات خود القاء ذکر و جذبات را طائف طلاب کردہ از سبتهای عالیہ طلاب راس فرازی سازند اما در طلاب بعد از استعداد قبول توجہات وجود دو امر ضروری است۔ ربط معنوی با مشائخ کرام و رعایت آداب ضروریہ طریقت کہ موجب استقامۃ بر شرعیت مطہرہ و ترقیات در قرب الی اند۔

و مثال نجف چنانچہ برے افادہ بتوجہات شریفہ اوقات مخصوص بودہ اند کہ بعد نماز صبح و عصر باطلیم حلقة توجہات منعقد می ساختند کم چنین برے تحصیل آن دو امر طلاب را مقدمہ لقاءات مکاتیب و رسائل حضرات کرام می نمودند۔ علی ماہو المعمور من اطوار کم العالیہ۔

در زمان حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ اش حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرہ در خانقاہ موسی زری شریف ہمیں طریقہ مسلوک کہ معمول بہا بودہ است چنانچہ از مطالعہ فوائد عثمانیہ واضح دلائج است۔

اما چون نوبت بحضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ رسید ایشان افادہ توجہات انحضر در طلاب اوقات مخصوصہ نداشتند بلکہ صرف ہر دو صادر فرمودند و از کمال شفقت بر خلق علی العلوم مصروف با فادہ خلق اشری بودند حتی کہ والذی اخذ حکیم عبد الرسول صاحب بکری مولانا ناصر الدین علیہ الرحمۃ چون بعد از دفاتر مشائخ خود حضرت بیربل والہ در خدمت خواجہ سراج الدین قدس سرہ برے تکمیل سلوک حاضر شدند دریں جا صرف حلقة صبح دیدہ عرض کردند کہ در حضرت بیربل شریف والہ حلقة توجہات دو وقت می بودہ است اما دریں جا حضرت یک قت حلقة منعقد می فرمائند۔ حضرت خواجہ سراج الملکۃ والدین فرمودند ”مولانا دریں جا ہر دو قت حلقة است“

حضرت مشیخی نور اللہ مرقدہ می فرمودند کہ معمول خواجہ سراج الدین قدس سرہ آن بود کہ بظاہر بر جذب کردن واردین و صادرین می بودند یعنی در باطن مصروف بتوجہات کردن بہر کے علی حسب الاستعداد می مانندند۔

حضرت السراج قدس سرہ در صرف توجہات چندان شغف نمودند کہ درس کتب و مکاتیب درس ائمہ حضرات کرام را حلقة توجہات کردا نہیں۔ بعد عصر بجائے انعقاد صرف حلقة توجہات مجلس درس بیع توجہات ساختند۔

حضرت مشیخ از شیخ الشیخ ابوالسعد احمد خاں نور اللہ تعالیٰ مرقد ہما حکایت می نمودند کہ روزے حضرت خواجہ سراج الحق والدین او شان را فرمودند کہ مولانا یک روزہ من می کنم و یک عذر شما بکنیہ

من وعده می کنم که شمارادرس مکتوبات خواہم کرد بدین طور که در هر مقام توجہات خواہم کرد  
شما ایم وعده بگنید که تمام مکتوبات شریف مراجعت بخانه خود خواهید کرد پس حسب الحکم حضرت  
مولانا خود را مقتید بخواندن مکتوبات شریف ساخته و با توجهات درس مکتوبات باشیم رسانیده  
حال آنکه قبل از این مکتوبات شریف چهار مرتبه در خدمت شیخ خود گذرانیده بودند در اثنا که قرارت  
روزے حضرت خواجہ از مولانا پرسیدند که فائدہ می شود؟ حضرت مولانا فرمودند که فائدہ بخال است  
حضرت شیخ فرمود که شیخ اشیخ مولانا احمد خاں قدس سرہ فرمودند که در وقت جواب لفتن اگرچه حسن  
بوده مگر حال کشف غواص مقامات حضرت المجد قدس سرہ برکت آگ تو جهات حضرت خواجہ  
علی التوالي حاصل است من بعد ذلک یہیں طریقہ قرارت مکتوبات معمول بهادر حضرات  
گشت.

حضرت شیخ نور اشرف مرقدہ می فرمودند که چون نظر باحوال خود و اصحاب خود می کنم موجب  
سرت پیزی نماید الا آنکه مشابه احوال حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ واحوال  
یازان اداند.

ایں طریق منور برائے قرارت مکتوبات و حصول توجہات مثلی موجب ثمرات عظیمہ و  
نوائد جسمیہ مشاهدہ شده است کہ بعد از شهادت حضرت شیخ اشیخ مذکورہ بالا احتیاج به بیان  
چیزے دیگر نیست اما تحدیثاً بنعمۃ اللہ تعالیٰ می گوییم کہ روزے ایں فقیر بعد العصر حسب المعمول  
قرارت مکتوبات شریف برشیخ قدس سرہ شروع کرد بمحض شروع کردن در زمین و بصر فقیر مرسم  
شد که بالمقابل حضرت المجد قدس سرہ شریف فرماند و فقیر بر حضرت ایشان قرارت می کند  
تا افتتاح قرارت یہیں کیفیت در مشاهدہ بود.

بعد فراغت حسب المعمول برائے تفریح بیرون آمدند دراں وقت علی العموم فقیر براہ می بوئے  
ارشاد کر دند که ختم حضرت المجد در خانقاہ شریف نکرده آید؟ فقیر عرض کرد حضرت بہتر است  
یہ بعد ظهر ازان تاریخ ختم حضرت مجدد قدس سرہ جاری شد و قبل ازان صرف بحر ختم خواجگان بعد  
صحیح و عصر اتفاقی رفت.

از این انہو فوج که بیان شده واضح می شود که استفادہ از مکاتیب رسائل حضرات مراہل  
راد است راعمل اذوقاً بہردو وجہ می باشد از این جا است که در حضرات اہمگام بگاتیب مثالی  
جماعاً حفظاً معمول شد است چون ایں فقیر در خدمت شیخ مکاتیب حضرت شاہ غلام علی قلندر

قرارت می کرد کمال اهتمام به صحیح نسخه فرمودند. بعد از تکمیل تصحیح اهتمام طباعت نمودند. فخر احمد اللہ خیر البحار.

از انفاس متبرکه و فیوضاتِ خصوصیه حضرت کرام است که در علوم متولیین ایشان شفعت  
جاری و ساریست درین نزدیکی الارخ المکرم حافظ محمد نصرالله خان خاکوائی ساکن ملتان کتاب تبر  
فوائد عثمانیه را که جامع ملفوظات و معمولات حضرت خواجہ عثمان قدس سرہ است بر احسنه صوت  
تحفه برای منتبیین حضرات مولیٰ زین الشریف ساخته است و حسب الاجازة حضرت صاحبزاده  
بقیۃ السلف محمد زاده بن خواجہ محمد سراج الدین المعروف بحضرت مرحوم نور اللہ مرقدہ طبع نمودند  
بعد از فراغت ازان فقیر را بطباعت کتابے دیگر از فوائد حضرت کرام مامور ساختند. نزد  
فقیر یاک مجموعه مختصر از مکاتیب سر حلقة حضرات کرام حضرت حاجی درست محمد قندھاری قدس  
سرہ بود که اگرچه به تعداد تاسی مکتوب بودند اما باعتبار فوائد دریا یا بی کران اند فوائد طریقت را  
جامع که ابتداء و انتها و وسط مکمل مجددیه را کما حقه ازیشان بیانی است و تا هنوز از  
کلام آن حضرت والاکتابے ہر یہ ناظرین نگشته بود عزم مصمم فقیر بر طباعت ایشان مجموعه متبرکه  
گماشت چون ایشان مجموعه مختصره که جمع کرده خلیفہ او شان مولیانا محمد عادل صاحب که ذکر خیر او  
هم از قلم شیخ در ضمن تعداد خلفاء درج است بوده است که بحواله خود جمع نموده اند والامکاتیب  
آن والامنحصر درین قدر نیستند. و ایشان مجموعه نوشته بقلم مولانا خان محمد مرحوم در ابن داله بوده است  
که ملوار اغلاط بود فقیر پنهانی است جدا و که در تصحیح آن بخار برده است. اما از احباب فوائد اخذ  
کنندگان استدعا است که اگر زلتے پابند راجح بقصور فقیر داشته در ذیل عفو و کرم پوشند  
و چون حظ گیرند ایشان فقیر و حناب حافظ صاحب موصوف، و مولانا خان محمد مرحوم را بدعا چن  
خاتمه و مغفرت عوض نمایند. جزاکم اللہ خیر او بر حکم اللہ عبیداً قال آمينا.

**فارغ** کلام ارباب قلوب صافیه حامل کیفیاتِ باطنیه ایشان می باشد. مثلاً برکے که  
کیفیت نہ ہر غائب است در کلام او آثارِ زہر نمایاں خواهد بود، و کلام صاحب معرفت خصوصیه  
حامل تعریفاتِ آئیه خواهد بود و علی ہذا القیاس. و حضرات مجددیہ قدسنا اللہ تعالیٰ با سر ایم چون  
کمال نسبت را افاضہ یقین خاص مقرر فرموده اند که موجب بری کی شدن معتقداتِ اہل است  
والجماعۃ است و سبب یُسُر سهو است در ادارے احکام شرعیه باشد و وجود ایشان خاص

بدرن استقامت شریعت و لزوم آداب طریقت و احتساب از مختصر عات و برعات به بزرگایں اکابر از قبیل حال عادی است و امور یکه در این دنیا و سط سلوک از جز بات واردات و کشفیات وغیره باشند بزرگایں اکابر کالم طرح فی الطرق وغیره ملتفت ایلهم اندر بلکه التفات و تعلق بایں امور رامانع اصل مقصد فرمایند. این است قانون مختصر سلوک ایں حضرات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السّلام علیهم الجمیعین -

اگر طالب ذی نعم در کلام ایں اکابر تماں نماید امور مسطورہ بالارا ارکان مکاتیب ایں حضرات خواهد یافت. چنانچہ یہیں مکاتیب حضرت حاجی صاحب نور الشمرقدہ در پیش اندر مکتوبے از تنبییه برس امور مذکورہ خالی خواهد بود بعضے مکاتیب شریفہ مخصوص برائے رد بدعات کردہ شده اند از تجاذب واضح می شود کہ اہم ترین اجزاء طریقت احتساب از بدعات است حتیٰ کہ صاحب الطریقه فرمایند در دفعہ ضات و برکات از حناب شیخ تا آن زمان است که احداث در طریقه او نگردد آید و چوں احداث آمد دفعہ ضات و برکات موقوف می گردند. اعازنا اللہ تعالیٰ منہا پس آن حضرات که در طریقه حضرت حاجی صاحب خود را نسبت کرده معتقد خلاف اہل سنت و اجماعۃ پاشنید یا ملوث به بدعات مثل سماع نغمات مرودجه و بناء قبه جات وغیرہ اطوار غیر مرضیہ حضرات کرام و یا آنانکه جذب است و حرکات متنوعه را عمدہ مقاصد طریقه شمارند و از برائے آوردن تحرکات طریق جدیدہ اذکار و اوراد احداث کرده اند. و ہم آنانکہ مجرداً تسلیم الی شیخ راطریقه نہیں این جملہ حضرات رامطاعہ ایں مکاتیب شریفہ از اہم مهام است. هنالئے ادلہ و ایا هم الی اصراف المستقیم -

**فائز** یک مکتوب شریف کہ مشتمل بر فوائد خصوصیہ شریفہ است و حضرت پیرزادہ بزرگ شاه روز احمد صاحب و آن کم از دست خلیفہ و ناسیب مناب خاص خود یعنی حضرت خواجه عثمان قدس سرہ است کہ مولیانا خان محمد مرحوم اور اعلیٰ حمدہ نوشتہ بود آن کم تبرکات دریں جادر مقدمہ نوشتہ شد است و پاشر التوفیق -

و حملی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ عجل اللہ اصحاب الجمیعین

نقیر عطا محمد نقشبندی کان اللہ تعالیٰ

۲۰ ربیع بستہ ۱۳۸۳ھ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بخدمت شریف صاحزاده عالی مرتب الاستان حضرت شاہ روف احمد صاحب ملہ الشر

تعالیٰ -

بعد از اسلام علیکم در حمۃ اللہ و برکاتہ گذارش می نماید و قطعہ عنایت نامہ مع رسالت  
شریف صادق مصدق رسید مسرتہما بخشید جزا کم اللہ تعالیٰ خیر الجزا و از من در جهہ آن ،  
خیلے سُور ر حاصل شد حق تعالیٰ و تبارک زیادہ تبرکت و اس ساعت طریقہ احمد یہ علی  
صاحبها الصلوۃ والتحیۃ عنایت فرماید و بر استقامۃ هر دانہ باشد و از ہم کس بے گانہ در صحبت  
دیوانہ دماں اذن صاحب زادہ والامن اقرب بسیار خوش ہستیم خداۓ تعالیٰ در ہر دو چنان خوش  
دار دو مشائخ کرام نیز رحمۃ اللہ علیہم از شما خوش باشد و ہرگاه در دلہا توجہ و حضور و جمعیت  
و سمعت انوار پیدا شود بہتر آن است که آن توجہ پھیل گردد باز توجہ بپوچ بکند خدا کند که  
تصفیہ قلب و نیز کیہ نفس بطالبان خدا حاصل شود فقیر را از رعا فراموش نکند و آنچہ از  
فوحات عنایت شود حصہ به فقراء معین باشد و فقراء که جلسه اللہ یہا شما باشد و مذکور  
تفسیر و حدیث و مکتوبات شریفہ و عوارف و تعریف و نفحات و فقه در حلقة متبرکہ شده باشد و  
وقتی از اوقات مجدات مجتبی نیازمندی و بضرعات و گریزی زاری بجناب حضرت باری کرد  
باشد و خلوتی که خالی از غیر و شما باشد و این فقیر حقیر لاشئے را به دعا یاد دارند و از مطالعہ سالہ  
شهر پیغمبر خوش شدیم و حق تعالیٰ آن چنان کند که مضامین رسالہ شریفہ کمالاً و تکمیلاً  
علی احسن الوجه در شما و در یاد ان شما ظہور کند و طالبان خدارا بہرہ یا بکند حق تعالیٰ آنچہ آباد و  
اجداد کرام شما را عطا کرده شما را عطا کند و اسلام علیکم و علی من لدیکم - تمیت ۱۲  
از دست حقیر پر تقصیر لاشئے عثمان عفی عنہ -

بتاریخ ۲۲ ماہ شعبان لمعظم ۱۳۹۷

بجزی المقدس المطر

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بعث النبيين عليهم الصلوة للتبلیغ احكام الشريعة العلية الى  
الناس خصا الاولى وتبعدتهم بالارشاد ودفع الخواطر والوسواس بشر لهم  
بمرضات خالق الحواس والصلوة والسلام على رسولهم محمد اخرج النفسانية  
والانانية الى العجز والانكسار الا يأتى شرعنها طريق السلوى الى الحق  
بالمحبته -

اما بعل - يقول العبد المفترى الشر عالي محمد عادل بن فضي محمد كاظمي قد جمعت  
كتابات كامل المكمل شمس الضحى بدر الدين مرشد الانام الذي لذى الدارين امام استاذنا ومرشدنا  
مولانا المشهور في الآفاق والآکنات الذي يظهر اسمه من بدر البيت به  
دود محمد عمار لنا بغير الشر تارك ما سوا  
قد فظعت ابيات في آوان فنا شیخ متضمن لمدحه فاثبتتها بهمنا وان لم يكن لا نقمة مع علو شأنه  
در فیع درجاته سردا للطابین وازدياد المحبة للمحبين :-

## نَحْشُور

من زایست زندگانی دیده ام لا جرم در دریح تو آغشته ام  
لے ضمیر تو بمقصد رهبر است و سعیش از عشرين عظم پر تراست  
روح تو انوار ای را گرفت در درونت غنچه عرفان شگفت  
مکنست از لامکان ولا مکان که نیاید در گمان بدگمان  
آفتاب پ علوی آمد بر زمین کو رسید چشم عدو خفاش بین

باریت ہمرازِ رحمانی ندیکم  
 پاہر سر ساز داؤ در گوئے تو  
 پیش تو افتاده باشد در قعود  
 نام تو مشهور شد در شش چھات  
 مے بر آید ہرنہ ماں جانم بہ لب  
 ایں سخن خود بزر بانم آمدہ  
 ایں وجودِ م غرقہ عصیان بود  
 انت شمس فی الحقیقت فی السماه  
 نیں بریید خارازان تو مظہر است  
 بہتر است آں دم ز عمر جاؤان  
 سر گوں افتاده باشد در لحد  
 از وجودت یا بد او ما المعین  
 کگ در آیند نزد تو زان وارہند  
 کہ بہ پیجا ید کے ایں آسمان  
 حصف تو در طاقت اندریہ نیست  
 آفتاباری خود اذ من هتاب  
 خود نباشد مثل من اندر زمیں  
 ایں وجودِ م جملہ آں آتش بسوخت  
 در درون خانہ هستم سر گوں  
 کہ نشیند بارہ دیگر باشما  
 البت پیشین راتا سیس شد

در در دشت سر سبھانی مقیم  
 گر بداند اہل عالم راز تو  
 آفتاب ہست بار دئے کبود  
 مُردہ دل از نور تو یابد حیات  
 از درونکم سوزِ عشقت تا به لب  
 ذات من در حبِ توفانی شده  
 بحر الطاف توبے پایاں بود  
 اشت مرغوب بخل ذے الشی  
 جو د تو از جو درباراں بہتر است  
 کچ کے با تو نشیند یک زماں  
 بدگان تو زنخت بد ابد  
 در حوارت ہر کہ باشد تم نشین  
 ہر کہ در زنجیر شیطان ہست بند  
 وصف تو گر من کنم ماند بدال  
 وصف تو گر من بگویم ایلهیست  
 ایں وجودِ م شب شد لے آفتاب  
 از غربی دُور افتاد یم من  
 در درونکم آتش بحر افڑخت  
 گر تو خواہی حال من اے ذوالفنون  
 قدر کے دار دیگر اے دل رُبا  
 نام تو انسان از تائیں شد

الْفَتِیشِیں از وینہاں شدہ  
 نقشِ نقاشانِ چین در گل بدان  
 تاکہ نقشش تو کنی من مُرده ام  
 من بھریک و صفتِ تورامے کنم  
 سب رپائے من شدہ چوں چنکلوک  
 الہی باشد به پیشِ ابلہاں  
 لا جرم گشته ز عصیاں بھرہ در  
 مدح تو گویند ز ماہی تاسماک  
 بازار ایں کمتریں را در پناہ  
 شمعہ باشد ازان استرا تو  
 لمعه از انوارِ خود بر من ببار  
 تاکہ کان الشد ترا آمد یقین  
 شرح و صفت طاقتِ انسان بیت  
 صدق گویم نہ کہ کذب آور ده ام  
 اے شرابِ تو شرابِ معنوی  
 مے شوی تو روستان رارہ نما  
 انت فے یہ الاعمی کالعصمه  
 خلق باشد خادم در بار تو  
 مهدی کے باشد کہ باشد بے خبر  
 لا جرم نام تو دوست محمد است  
 مے بخواہم داد از الطافِ تو

نامِ من ناس است از نشیان شدہ  
 نقش تو در عالم ام است جاں  
 ایں سفالی خود بہ تو بسپردہ ام  
 گر بردید صد زبانم از تنم  
 لاغرم در عشق تو من هم چودوک  
 گر بگویم حال خود با در گران  
 بدگماں چوں ہست از رازت بے خبر  
 نور قدسی آمدی بر رفے خاک  
 اے در دشت پُرزا سُرارِ اللہ  
 گر بگویم شرح از انوار تو  
 اے رضاۓ تو رضاۓ کردگار  
 چونکہ کان للہ بودی پیشِ اذیں  
 کارِ محبت کارِ ما کوران نیست  
 خاصہ از خاصگانست دیده ام  
 اے طعام تو طعام ایم زدی  
 نور تو آمد نہ انوار سماء  
 یا طیب القلب یا ہادی الوراء  
 گر بردیدے نور از انوار تو  
 خلق ایں اہل زمانہ بے ہمنہ  
 چهل بارشات ضیا زین احمد است  
 من محمد عادل از انصافِ تو

تازیں مشیطان ازیں دیلوں میں  
مے نہا شم در شکنخ در جنیں  
مگر نظرداری دریں خاک تباہ  
خود شود محفوظ از نقص گناہ  
خیال تو چوں از خیالات خناس  
مے رہا ند کل واحد راز ناس  
دیدن تو چوں بودا سے دل رُبا  
خود رہا ند کس ز هر لمح و عنا

و ناظران را باید کہ زبان طعن و ملامت در حق ایں حقیر لاشے دراز نہ کند کہ در حالیت صولت  
دبدبہ عشق ایں سخنان بظہور آمدہ است ۵

مُوسِيَا آدَابِ دَانَى دِيْجَانَدَ سُوكَشَرِ مَرْعَشَقِ رَانَى دِيْجَانَدَ  
فَالآنُ شَرْعٌ فِي مَكْتُوبَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ۶

**مکتوبیں** بنام خلیفہ محمد جاناں آخوندزادہ ساکن مرغہ۔

الحمد لله الذي أطلع في فلك الأزل شمس النبوة الحمراء وأشرق من فوق اسرار الرسالة  
منظما بتجليات الاحمرية يحمل الله عليه وسلم  
انحوى عزيزه ارشدی محمد جاناں آخوندزادہ صاحب سلمهم الله تعالى عن الآفات الذهنية  
الاضروریة وجعله الله عاشقا ومحبا للذاتة تعالیٰ۔

از فقیر حقیر لاشے دوست محمد عضی عنہ بعد از سلام اشتیاق مشحون آئندہ نصیحتی کہ بیاراں نہو  
مے شود ملحوظ مے باید داشت کہ شرط اجازت و تقویح الطریقۃ الصوفیۃ استقامۃ است  
ظاہراً او باطنًا بر احکام شریعت محمد علیہ السلام کے یک ذرہ حتی المقدور از حد و شرعیہ تجاوز  
نه فرمائند خصوصاً صلوٰۃ خمسہ باول وقت بجماعت گزارند مگر نماز صح و هر ساعت بذکر  
مراقبہ حق تعالیٰ مشغول بودن و قلة الكلام و قلة المذاام و قلة الطعام و قلة الاختلاط مع الانماض  
کردن و رہ توبہ و صبر و فناعت وزہد و توکل و شکر و خوف و تسییم و رضا و موصوف بودن

کشف و گرامیات و خرق عدار است را مثلاً عوامِ الناس در نظر نیاوردان و از خود و از ماسوئی نایمید  
بودن و فقر و فاقه را نعمت عظیمی دیدن و طبع در مال مریدان و غیره نیاوردان و نظر به قبول و رد خلق نکرد  
واز غنی داہل غنی محترز بودن و خدمت علماء و فقرا بمال و جان و تن کردن و از غمیست و ندامت  
خلق مجتنب بودن و از شر نفس و شیطان تا وقت هر دن نایم بودن و خود را از جمیع مخلوقات  
حذیر نهستن دلایل دیدن خوش گفت ۵

هر کجا ایں نیستی افسوں تھے است

کار حق را کارگاه آس سه راست

راجح از ابیان شیریعت و طریقت محمدی علیہ السلام همین است الْهُدَى مِنْ رَبِّكَ فَتَنَاهُ مَا بَعْدَ  
جیبیک فعلًا و قوْلًا و اعتقادًا اوْلًا و آخرًا ظاہرًا و باطنًا. اے برادر بھگت خود مصروف  
حق سازند و پیک لحظه و لمح غفلت از جناب حق سُبْحَانَه تَحْمِيزَه بِرَحْمَةِ بَرَّه  
باشند و غیرم روزگاری نخوازد و مشوش و پیش از در طلب رزق نیاشند که رزق از حق تعالیٰ مقدر  
و مقرر است برای مخلوقات. علم و عمل را فسونات و تکامات را مثل عوام علماء بے عمل صوفیان  
جاہل و سیمیله ساختن نیست مگر خواری چنانچه در حدیث شریف آمده اخرج الیمیقی عن عیین  
بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوان اهل العلم صانوا  
العلم و وضعوه عند اهلہ لساد وابہ اهل زماںہ و لکنهم بن لوكا لاهل اللہ نیا لینا لوابہ  
من دنیا هم فهانو علیهم سمعت نبیکم علیہ السلام يقول من جعل الہم هم هم واحمل  
ھم را خریم کفایۃ اللہ هم در دنیا و من تشغیلت به اطمین و مه حول اللہ نیا لمریب بال اللہ تعالیٰ  
فی ای وادی یتمہ اهلک. و سعادت دنیاوی و دینی و آخری در علم و عمل است اذ کان خالصا  
سر تعالیٰ و موافقاً لما تابعه نبینا محمد علیہ السلام قول و فعل و اعتقاداً کے که عالم باشد با قول و  
افعال و اعتقاد است پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و عمل بدان نه کرد عالم نیست. چنانچه در حدیث  
شریف نکر کور است عن ابی درداء قال قال رسول اللہ علیہ السلام لا یکون المرء عالم احتی یکون بعلم عالم

## مکتوبہ مُبنا ملّا امان الشَّصَاحِبِ خلیفہ ہر انی

الحمد لله الذي ذاته منزه في التنزية عن صفات النقص والذوال وعن الكيف والكم وعن الاتصال والانقسام ونشهدان لا إله إلا شریک له ونشهدان محمدًا عبد الله ورسوله وجيشه عليه الصلوة والسلام وعلى آله واصحابه واجيابه أجمعين هو لما اهل وهم لما اهل آمين يا رب العالمين.

بعد الحمد والصلوة وتبليغ الدعوات انحوى اعزى ارشدی ملا امان الشَّصَاحِب سلمکم اللہ تعالیٰ ظاہر اراد باطنًا از جین تحریر فقیر لاشی دوست محمد کان اللہ عوضما عن کل شئی من کل الوجوه خیریت است و المسئول من الشَّرْعَالی سلامتکم وعافیتکم وشاتکم علی الشریۃ الحمریۃ علی صاحبها الصلة والسلام بخضی احوالات که بفقیر گفتہ بودند محبوب و مرغوب گردیدند چونکہ اسرارات باطن ایشان متضمی حقائق و معارف ارباب کشف معرفت توحید شهودی بودند که مقصود و مطلوب و محبوب است فرحت بر فرحت افزودند که نیجہ طریقہ پیران من ہیں معرفت توحید شهودی است و از ردی ظاہر شرط است و بدیند که وجود حق تعالیٰ یکے است حقیقی است وجود جمیع موجودات علمی و سفلی قائم باوست و ازو است تبارک و تعالیٰ فاما اینہا دلالت بر وجود حقیقی می کنند فلا سفر ایں جا غلطی خود که نظر ایشان برحقیقت دلالت وجود نیفتاد و سعادت ایں نظر پاہل معرفت و توحید ارزانی فرموده آیتہ کریمہ اللہ عزوجلہ الشہادت والارتضی وجود حق تعالیٰ نور بے چون در بے چگون حقیقی است کہ در فہم مانگنجد و عقول ناقصہ ما دراک آن تو اندر کرد و اطلاق نور کم در آں بارگاہ بے چون نیست مُنْتَور است. دار تقییم و تبعیض منزه و مبڑا است و بذلت واحد است من کل وجہه و ذات صفات او نہ عین و نہ غیر از حدودت جدا و از جواہر داعراض وزمان و مکان تعطیل و کیف و کم و حیث و قبل و بعد و جهات و حدود و صورت و حلول و ضد و بند و مثل و شکل منزه و مقدس فہم بسیانہ الان کما کان ایں تحریر و بیان بتواتر از سامرا بیار و رسال صلوٰۃ الشَّریف علیہم اجمعین باصحاب کرام فانض گردیدہ است و از ایشان بعلماء اہل سنت و جماعت رسیدہ و از ایشان بتوسط استاذان بہار شمار سیدہ

ایں راؤ جز ایں را معرفت استدلالی می نامندر و سماعی است و عقل و قیاس مارا دراں راہ نیست۔  
 المحمدزادے ایں ہم نعمت است و مشترک بیان علماء و صوفیہ است و اجل است کہ بُدن ایں معرفت  
 معارف صوفیہ صورت نہ بندند و طریق معرفت الصوفیۃ ہی تحریر النفس عن علائق الحسدیۃ و  
 العوائق البشریۃ والصفاة الذمیۃ والاخلاق الردیۃ بالریاضات والمجاهدات والتوجہ الی است تعالیٰ  
 با کلیلیۃ علی قاعدة الاسلام و موافقة الکتاب والسنۃ واجماع الاممہ والمعرفۃ المحاصلۃ من ہذا الطریق  
 ہی معرفۃ کشفیۃ شہودیۃ مخصوص بالانبیاء علیهم السلام والادولیاء علی حسب مرتبہم لا یحصل عالیاً الغیر  
 المجد و رب السالک الاباطئات والعبادات والاذکار باللطیفۃ القلبیۃ والقلبیۃ والردحیۃ و  
 السریۃ والخفیۃ والاخفیۃ والفرق بین المعرفین ہی ان معرفۃ الصوفیۃ عبارۃ عن علم حضوری باصر تعالیٰ  
 یحصل بعد الفنا و البقاء و یعیز عنہ بالمعروف الشہودیۃ والوجودان و معرفۃ الشکمین عبارۃ عن علم حصولی  
 بالسر تعالیٰ و ہبتو بتجھیز النظر والاستدلال و بیانہما ان کل علم عن الخارج عبارۃ عن صورة المعلوم المحاصلۃ  
 فی مرکزة العالم و یقال لعلم الحصولی وہ علم الیقین و الذی لم یحصل من الخارج بل یکون متعلق قابلات  
 العالم یقال له علم الحضوری وہ عین الیقین والعارف لما فنی عن نفسه و بقی باصر تعالیٰ و انقطع عن  
 وجود الکون فلا یحتمل انتقال عن العلم الحصولی و ذہب من العلم الی الوجود فجینہ تجزی خلص من الشرک  
 الجلی والخنی والریوب الشکوک الادهام الساترة للقلوب وہ حق الیقین فی صیر عاشقاً و محباً ذاكراً  
 وعاً برأساً جدراً نقد تعالیٰ الی حین موته من ناقص و ناتمام از معرفت حق په گویم، از معرفت حق  
 سبحانہ اولیاء کاملان عاجزاً آمده و در ترجیحہ ایں آیت فرموده و مَا قَدْ رَأَوْا لِلَّهِ حَقٌّ قَدْ سَرِكَ ای مارفوا  
 اس حق معرفتہ از بھال غیرت و عزت و جلال و عظمت او معرفت ذات بحث او پیغ کس نداده حقیقت  
 توجید و گفتہ بیا ید که بھال است گر صد هزار سال بہمہ خلق کائنات فکرت کنند و در حقیقت عزت حیات  
 آخر بعزم معرفت آییند که ما پیغ ندادستم حضرت شبلیؒ فرموده حقیقت المعرفۃ الجزر عن المعرفۃ حضرت  
 خالقون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتہ اکبر فنی معرفتی ایاہ و حضرت امام ربانی مجدد الالف ثانی ارتقام نموده  
 چیست قال فہو سبحانہ دراں کل محسوس و معقول دراں کل موهوم و متحیل فہو سبحانہ دراں الوراہ تم دراں الوراہ

شُم در این دوران دایلی در اینست نه باعتبار جحود است بلکه بجهت عظمت و کبریایی او است. و بعضی  
بزرگان فرموده‌اند معرفت حق عبارت است از درین اشیاء و هرگز همه اشیاء در معنی کلی  
شَيْءٌ هَالِكُ إِلَّا ذَبَحَهُ وَبِهِ از بزرگان گفته‌اند معرفت حق تعالی این است که حق بسیانه تعالی  
از رئیس علم و قدر است بیهی چون و پیش از چیزی خود نزدیک تر دانی و آن همه پیز  
دوست تر دانی خود و مخلوق را لاشی می‌بینی. ابو عثمان مغربی فرموده‌اند العاصی خیر من المدعی لآن العاصی  
ابدای طلب طرق التوبۃ والمدعی خبیط ابدانی خجال دعوایه. زیرا که عاصی طریقه تپیخ طلب را این فسیل  
عبادۃ است و مدعاً همیشه در خیال دعواے خود خبیط می‌گند و در مقام تضییع است و این گناه  
است. و هم دیگر فرموده‌اند هر که صحبت تو انگاری بر صحبت در دیشان برگزیند اشد تعالی و نه  
بمگر دل مبتلا گند و مسلوک طریقه صوفیه عباره عن تمہیب الاحلاق لیستعد للاتصال باشد  
تعالی دمعنی الاتصال بالحق الانقطاع عمادون الحق و لیس المراد اتصال الذات بالذات لآن لک  
یکوں بین الجمیع و نہ الرؤم فی شان الشرعاً لکفر بل بمقدار انقطاع عن غير الحق اتصالهم بالحق  
وفقر و فاقه که منصب عظیم است و حال پیغمبر ما است علیہ السلام اگرچه برای نفس مکروه و بلاء است  
مکروه نباید دید که مکروه دیدن اینها مرتبه عاصی خلق است. بزرگان فرموده بلا از دوست عطا است و  
از عطایان ایدن خطاه است. ادب بلاد آنست که شکایت و جزع دمیل والتجابغیر حق نگند نزدیک  
اہل سنت و جماعت اگراز حق تعالی در دو بلاد حاضر شود هر یکه واجب است محبت آن بلاد که  
رضائے حق برآورده فرض ہست که الرضا. سر در القلب بمحاسب اشد تعالی و قتیله سرور و غیرت  
بلیات حق در قلب پیدا شود رضائے بر رضائے حق نشود هرگاه که رضا بر رضائے حق نشود و حقیقت  
طاعت و بنده گی نشد. الطرق الی اشد تعالی بعد دانفاس الخلاق شنیده باشد بطریقہ نقشبندی  
خود مشغول باشند که طریقہ پیران من است اجازت سائر طرق که فقیرداده بودند برای نزدیک  
برکات که معمول پیران مانت نه که طرق دیگران را رواج بدیند. بزرگان در تعریف فخر  
گفته‌اند الفخر کاسن فی ماہیۃ التصوف و به اساسه و قوامه. قال رویم التصوف بعنی علی ثلاثة

خنال التسکب بالفقر والافتخار لتحقیق بالبذل والإیشار . و قال الکرجی رحمة الله عليه : التصوف الاخره بالحقائق والیأس مما في ايدي الناس فمن لم تتحقق بالفقر لم تتحقق بالتصوف وقد سئل جنید البغدادي رحمة الله عليه عن التصوف فقال ان يكون مع الشرط تعالی بلا عداقيه و سلسله ابلى عن حقيقة الفقر فقال ان لا تغنى بشئ دون الحق . وقال ابو الحسن النوری نعمت الفقر ان تكون عند العدم والبذل والإیشار عند الوجود .

حق تعالی سبحانة ایں بے عمل و بے کردار ولا شئے را و شمار او جمیع دوستاں را عمل بایں رشیں عنایت فرماید . آئین دمیعت واقربت حق تعالی ایمان داریم و کیفیت آن بعقول ناقصہ مامعلوم نیست کہ

بے چون و بے چگون است روح کہ از مخلوقات حق است حق تعالی کیفیت و معرفت او از مرد که ما

سلب نموده قوله تعالی قلِّ المُرْوَجُ مِنْ أَفْرِسِيْتِ ازیں جنتہ مولانا زادہ فرمودہ اندست

ایں معیت در نیا بد عقل و ہوش نہیں میت دم مرن بنشیں نخوش

قرب حق با بندہ دور است از قیاس از قیاس خود منہ آن را اساس

قرب حق نے پست بالفترن است قرب حق از قید هستی رستن است

طالبان کے علم ظاہر خواندہ باشندہ ذکر شروع شایند ایشان را بخواند علوم دینیہ امر فرمائند کہ صوفی

جاہل سخرہ شیطان است و کسانیکہ علوم دینیہ خواندہ باشند ایشان را بذکر دھرا قیہ و عبادت ریاضت

ذلتاوت قرآن مجید در در شریف و دعا ، ماثورت و صلوٰۃ تجد و اشراف و صلوٰۃ ضحی و صلوٰۃ او ایں

تحلیف و ترغیب نہایند علی احسب مراتب عالم و تدریس تفسیر قرآن مجید و علم عقائد و حدیث شریف

و علم فقر و علم تصوف مددیست خاندان حضرت ما است . و در کتاب عوارف المعارف منقول است :

از شیخ شہاب الدین سهروردی فاعلم ان المرید من الشیوخ او ان الارتضاع او وان الفطام قال وان

الارتضاع او وان لزوم صحبت شیخ و شیخ علیم وقت ذلك فلا ينبع للمرید ان يفارق شیخ الباذنة قال الله

تعالی تاویل الامم ائمۃ المؤمنون انَّ الَّذِينَ امْنَوْا بِاِنَّهُ لَرَسُولُهُ وَلَاذَا كَانُوا امْعَدُهُ عَلَى آمْرِ

جَامِعٍ لَّهُرَبِّهِمْ وَاحْتَى يَسْتَأْذِنُهُ اَنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِاِنَّهُ لَرَسُولُهُ فَإِذَا سَأَلَكَ رَوْلَكَ لِيَعْضِ شَاهِرِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَإِذَا امْرَأْ مَعْ

عظم من امردين فلا يُؤذن شیع للمرید في المفارقة الابعد علمه بان له او ان الفطام دانه يقىد ان يتقبل  
بنفسه ويفتح له باب الفهم من الشرعاى فاذا بلغ المرید مرحلة انزال الحوارج والالهام بالشرعاعي وايقظ  
من الشراعى تعریفاته وتشبیهاته سبحانه وتعالى فتسرى لغة او ان فطامه ومفارقته قبل او ان الفطام  
یناله من الانلال في الطريق بالرجوع الى الدنيا ومتابعة الموى :

### مکتوب سعیم ایضاً بنا م خلیفه ملا امان الشر صاحب حب صوف الصدر

الحمد لله الذي حلقتنا وصورنا فاصن الصورة من سائر الحيوانات البرية والبحرية و  
ہذا الاسلام بالشريعة الحمديه وخص فرق الصوفيه بفيوض علوم اليقينيه والمقامات الاسماء  
الاحمدية صلی اللہ علیہ وسلم - بعد از حمد وصلوة وتبليغ دعوات وآفیات اخوی اعزی الرشدی ملا  
اماں الشر صاحب سلی رتبہ و زید ارشادہ و رفعہ الشرعی معاشر کمالات الدارین بحرمتہ الشیعی  
لعلیین - از فقیر حقیر لاشے دوست محمد که مشهور به حاجی است کان اللہ عوضاً عن کل شئ سلام  
مسنون ودعوات ترقیات مشحون مطالعہ فرمایند الحمد لله که تاھین تحریر فقیر بمعہ اہل بیت خود و  
در دیشان بخیر و صحت و عافیت است و المسئول من الشرعی سلامتکم و عافیتم واستقامتم  
علی الشرعیۃ الحمديۃ المصطفویۃ علی صاحبها الصلوۃ والسلام - برانید که توحید که در اثنا طریق  
صوفیہ بر طالبان حق تعالیٰ ظاهر می شود و قسم است توحید شهودی و توحید وجودی - توحید شهودی  
معبار است از دیدن صفات و ذات و احد حق تعالیٰ فقط و اختفاء کثرت بالکل از نظر سالکان که  
مراهان و محبو بان حق تعالیٰ می ہاشند - بسبب کمال عشق و محبت و ترکیب نفوس ایشان وجود  
ماسو اگر زدن نظر ایس بزرگوار ای دنیا مده وجود غیر حق را اعتبار نہ ماره اند - وجود مخلوقات که در اصل  
خود عدم است در بر که ایشان عدم ولاشے گردید - وجود ما سوار اعنوان عینیت و هر آنیت و  
طلبیت سچ گاه ملاحظه نئے فرمایند که جمیع جحب تعبیبات حق تعالیٰ بر ایشان قطع کرده اند، ایس  
معرفت شهودی ناگزیر طالبان حق است که معرفت جمیع انبیاء و اولیاء کاملین که تاریخ خاص شریعت

ایشان اندر ہیں است و کتاب و حدیث برائی معرفت والی ناطق است۔

و توحید وجودی عبارت است از داشتن سالکان طریقہ کر متوضطان میں باشندہ تھا در وجود کہ بمعنی ما به موجودیہ است از جمیع اشیاء یعنی مفہوم موجودات علوی و سفلی ذاتِ واحد است نہ آنکہ ذاتِ حق تعالیٰ و ذاتِ موجودات واحد است کما زعم بعض الصوفیۃ الجہال کہ آن الحاد صریح است نہ توحید بلکہ ایشان بسب محبت و تصفیہ قلب وحدت کہ منزہ و مقدس و بے مثل و بے مانند و بے صورت ظاہری و مثالی و بے حلولی و بے چون و بے چگون است در کثرت بطریق عینیت و یا مرآتیت و یا ظلیت مشاهدہ و ملاحظہ می کنند موصیش آن کہ کثرت بتمامہ از نظر ایشان بہ شکواستہ از مقام فنا کہ اول قدم دلایت است لصیبہ بحال نیافرته بنا ہی ظہور ایں قسم توحید و سکر و قست و غلبہ حال و استیلا رمحبت لطیفہ تلبی است۔ اتا محققین ایشان وجود را مرتب خواہ اثبات می کنند و آن را تعینات پنج گانہ می گویند۔ اول تعین کہ بر احادیث مجردہ متین شدہ است و حدیث ہے گویند دریں مرتبہ تعین علمی اجمالي اثبات می نہایت۔ و تعین ثانی را احادیث می فرمائند کہ تفصیل اسماء و صفات است در حضرت علم و مرتبہ جبر و مرتضی می نامند و ایں ہر دو تعین زادہ مرتبہ وجوب اثبات می کنند قدیم می دانند۔ و تعین ثالث را مرتبہ عالم ارجاح و ملکوت می شارند۔ و تعین رابع را مرتبہ عالم مثال و تعین خامس را مرتبہ عالم اجسام و ناسوت قرار دادہ انہ دلیں مرتب سہ گانہ را مرتب امکانی گفتہ انہ و حادث می دانند و احکام یک مرتبہ بر مرتبہ دیگر ثابت کر دن پیش ایشان ندقہ است و کسانیکہ اتنا الحق و صحیانی دلیں فی جھنی سوی الشرویل فی الدارین سوی اللہ گفتہ انہ در مقام حالت فنا کے می بودند ایشان مسکارائے محبت و عشق حق تعالیٰ می بودند۔ والا اگر بطریق حکایت ثبا شد و غلبہ سکر و محبت ہم نہ اشتہ باشد بلکہ شاہبہ حلول و اتحاد و ادارہ قابل ایں قول راردے کنیم چنانچہ نصاری رامے کنیم کہ بخلول و اتحاد قابل انہ و این سخنان حالت و واقعات درجیں غلبہ حالت مقام حیرت و عین الیقین کہ فنا کے ائم است حاصل می شود

وفته کے سعادتِ ازلی از حق تعالیٰ سے شاملِ حال اور میں شود اور اب مقامِ حقِ الیقین کے مقام بقا۔  
 اگلی صفتِ مشرف ہے فرمائید ہمیں حالات و واقعات و کلمات سکریٰہ ایشان ہیا، منشورِ امی  
 گرد دلپس ازیں کلمات و واقعات و حالات تھا شی میں نہایند و درمیانِ خالق و مخلوق تمیزی  
 کنند۔ خالق را خالق میں دانند و مخلوق را مخلوق میں فرمائید مالکِ ارباب و رب الارباب ایں کلمات  
 و واقعات ہم از حق صادر میں شوند و ہم از بطل۔ حق را آبِ حیات است و بطل را سم قاتل در  
 زنگ آبِ نیل است کہ بنی اسرائیل را آبِ خوشگوار بود و قطبی راخون ناگوار۔ ایں مقامِ مذلت  
 القدام است جنم غیر از اہلِ اسلام پر تقلید سخنان اکابر الدین ارباب السکر از صراطِ مستقیم  
 منحر گئی شہزادیوں کو چنانے فحالت و خسارۃ افتادہ و دینِ محمدی خود را بر باد را دادہ اند ندا  
 کے قبولِ ایں سخنانِ مشروطہ انتطا است کہ در ارباب سُکر موجود است و مقلدانِ ایشان  
 کے غلبہِ حال نہارند و بے سُکر اند مفقود۔ معظم تینِ شرائطِ نسیان مساویَ حق است بُحانۃ  
 کے دہلیز آں قبول است۔ و امتیازِ حق از بطل استقامت بر شریعت است و عدمِ انتقا  
 بر شریعت آنکہ حق است با وجود سُکر و بے خودی سرموئے ارتکاب خلاف شریعت  
 نخواهد کرد۔ منصور صلاح با وجود قولِ انا الحق در زندان پارنجیر گران پانصد رکعت نمازِ نافلہ ادا کے کرد  
 و طعام کر دستِ ظلمہ بدان رسیدہ بود اگرچہ از وجہِ حال میں بودنے خور دند۔ و آنکہ بطل است  
 انسیانِ شریعت بر قیے چول کوہ گران است۔ آیۃ کریمہ حکیم علیہ السلام کہ کیم مائیں موعہ هر  
 ایک نشانِ حال ایشان۔ حضرۃ علامہ الدوڑہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میں فرمائید کہ بزرگانِ دین۔ و  
 روزگارِ راهِ یقین بالتفاق گفتہ اندر معرفتِ حق تعالیٰ بر خورداری کے یا بند کر طیبت لقہ رذاق  
 صدق مقال شعائر او باشد چول ایں ہام فقد شد برسیں طامات و تمہات چہ سود۔ و حضرت سهل  
 بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گفت کہ شخصے میں گوید کہ نسبت فعل من بارادت حق  
 تعالیٰ ہم چنان است کہ نسبتِ حرکاتِ ابواب۔ حضرت شیخ فرمودہ انڈ قائل ایں قولِ الگر کے بو  
 کہ مراعاتِ اصولِ شریعت و میاذظتِ حد فرا حکام عبوریت کند از جملہ صدیقان است و اگر نہ

از حکمہ زندگان است۔ از بزرگے حکایت مے کہند کہ چوں درجین غلبہ حال خودارادہ مے کہند کہ  
کل شیخیات تکلم نہایند رسول علیہ السلام حاضر مے شد انگشتِ بمارک خود بدہان او آردہ مے  
فرمودند از من شرم نداری و گاہ گاہ درجین غلبہ توجید وجودی آواز مے شنید کہ از حضرت محمد مصطفیٰ  
علیہ السلام شرم نداری، آگ داعیہ از فے بر فتے وازنی الفت شریعت مختصر گشته۔ واں حقیر  
لا شئے را زیں حالات دو اقوات توجید وجودی بعنایت حق تعالیٰ و بهمین توجہ پیر دست گیرن  
قلبی و روحی فداه تیپ کلامے نیامدہ مگر در احوال حالات ذوقیات و شوقيات و جذبیات بسیار  
مے داشتم درمیان ایں حالات گاہ گاہ خود را بصورت کلام مے دیدم و دیگر اشیاء در نظر من  
حقیر و بے مقدار مے بودند در دل خود مے گفتہم اگر با انگشت خود اشارت بکوہ کنم ذره ذره و قطعہ  
قطعہ مے شود۔ الحمد لله الذي نجينا من بذه الحالات المهمكات العظيم و هانا الاصراط الحق المستقيم  
اے برادر صوفیہ با تفاصیل گفتہ اند نسبت بزرگان دین برائ پیر حرام است کہ خود را از جمیع حشر  
ارض و از سگ گرگیں بہترداند۔ اللهم حصل لنا البصیرة و اظهروا بنا عیوب افسنا و تصرف رُنیانا  
با عیننا و از قنامن جیش لاتحتسب انت مولتنا یا نا صرنا یا کافی الامریات شانی الصدور۔  
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ و تحقیق دیوان دیگر آنکہ پیران کبار طریقہ ایں لاشی  
فرمودہ اند توجید حالی کہ در اشنا طریقہ ایں طائفہ دو قسم است توجید وجودی  
و توجید شہودی کیجی دیدن است۔ یعنی مشهود سالک جزوی کے نباشد۔ و توجید وجودی کے  
موجود داشتن است وغیرا در امداد مانگا شتن پس توجید وجودی از قبل علم اليقین آمد و  
شہودی از قبیل عین اليقین۔ توجید شہودی از ضروریات ایں راہ است کہ فنا دریں توجید متحق  
نمی شود بجز عین اليقین و عین اليقین بے آن میسر نمی گردد۔ زیرا کہ رویت کے باستیلار او  
مسئلہ عدم رویت مساواہ او است۔ بخلاف توجید وجودی کہ نہ چنین است یعنی ضروری  
نیست چہ علم اليقین بے آن معرفت وجودی بقدر مرتبہ ہر مومن را حمل است چہ علم  
ليقین مسئلہ عدم رویت مساواہ او نیست غایت مانی الباب مسئلہ عدم نفی علم مساواہ او است در

وقت غلبہ واستیلا علیم باک یکے۔ مثلاً شخص کے علم الیقین بوجود آفتاب پیدا کرداستیلا را ایں علم الیقین مستلزم آئی نیست کہ ستارہ را در آن وقت منتفی و معدوم دانند۔ اما وقتیکہ آفتاب را دید و مشہود او جزو آفتاب شواہد بود آن نادیدن ستارگان بواسطہ غلبہ فور آفتاب است و ضعف بصر رائی و اگر بصر رائی بنور ہماں آفتاب استکمال یابد و قوت پیدا کند ستارہ را از آفتاب جو ابیند را ایں حاصل نہے شود مگر در حالت حق الیقین و منشار توحید وجودی جمعی را بسب کثرت ممارست مراقبات و اشغال اہل توحید وجودی و بیاستعقل و ملاحظہ معنی لا الہ الا اللہ بلا موجو الا اللہ است دست مخدود یا بواسطہ مطالعہ کتب توحید وجودی ایں معرفت در تخلیل ایشان نقش بستہ می شود چون بخیال و جعل جا عمل مجعل معلوم است ہر آئینہ معلوم است حسنا ایشان توحید از ارباب احوال نیست چہ ارباب احوال ارباب قلوب اند ایشان از مقام و احوال قلب درین وقت خبرنگار نمود از مرتبہ علم سیش نیست و لیکن علم را ہم درجات است بعضها فوق بعض اکثر اینہا ایں وقت بعضے به تقليید بعضے بمجرد علم وبعضے دیگر علم ممتاز جه بذوق ولو فی الجملة وبعضے بالحاد و زندقة دست بد امن ایں توحید وجودی زده اند و یہمہ از حق می دانند بلکہ حق می دانند و گردن ہائے خود را از احکام شریعت بایں جیلمہ می کشايند و مسائلات احکام شریعت می نمایند و بایں معاملہ خوش وقت و خور سند اند و باتیان احکام امور شریعت اگر اعتراف دار ند طفیلے می دانند اما مقصود وزیر شریعت خیال می کند کلاؤحاش نعوذ باللہ من بـ الاعتقادات الباطلة۔ نہرچہ مخالفت شریعت است مرد و دست کل حقیقتہ ردتہ الشریعۃ فوز ندقۃ۔ شریعت را بر جائے داشتہ طلب حقیقت نمودن کہ مردان است۔ رزقنا اللہ سبحانہ الاستقامة علی متابعة سید المرسلین علیہ السلام علی آکہ صلوات

وسلامہ اجمعین۔

اسئله چند نمودہ بودند جواب ہر یکے نوشتہ می شود۔ کلام دیدن وجود راجحی معنی گفتہ اندر کس نیکہ از متابعت نبیا، صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین روئے گردانیدہ اند و سخنا

راہی مے گفتند ببیش ہیں تھلی معنوی بودہ است و طالبان کے خود را خاکسترنہ نہیں دالت فناہ  
بعض لطائف و یا کل لطائف است اگر بعد از خاکسترنہ وجود اصلی مے آئندگی حالت بقاء  
بعض لطائف و یا کل لطائف است و جو شش خوردن در دیگر و متلاشی شدن باز بوجود  
آمدن ایضاً حالت فنا و بقاء است و اذن دادن رسول علیہ السلام سُجْلَافَتْ مشعر تقاضا  
و فرق درمیان تجلیات آنکہ تجھی فعلی آن است کہ سالک فاعلِ حقیقی حق و اندہ عباد و تھلی صفات  
پہنچیہ کہ صفات از خود و مساواست شب نموده بجناب حق تعالیٰ منسوب گردانیدہ ہینہ تجلیات  
شیوه این است کہ از سالک نام و نشان از خود نہ نمود و ایمانیست اور بالکل زائل گردد  
تجھی صفات سلبیہ این است کہ سالک حق تعالیٰ رامنژہ و مقدس راند و خود و مخلوق لا اشی  
و عدم محض پیند و تجھی شان جامع شامل این ہمہ تجلیات است نزد متكلمین و صوفیان  
درمیان ایں بحث سخنان کثیر است و درمیان خود صوفیہ بجهت اختلاف هراتب مشارب  
ایشان افادیل ایسیا راست و فتاویٰ ہر مقام نزد فقیر با قسم است و تجھی عبارت از ظور  
اواظمار پر توفیوضات ذات و صفات عظمت اکوہیت حق تعالیٰ است کہ ہستی بند بتأرج  
و ہند و تجھی ذات و صفات حق تعالیٰ عمد و نہایت ندارند بلانہایت است اگرچہ بزرگان ایں  
طریقہ سُر نور گفته اند و محااضرہ حضور دل بتواتر مردان و استیلاء ذکر و مکاشفہ حضور دل است  
بنعت بیان بے تأمل و مشاہدہ عبارت از دیدن آثار انوار و بر وق جبروت در خواب یا  
بیداری فاطم ان قول الصوفیۃ فی التجلی اشارۃ الی رتبۃ الحظ من المقيین و رویۃ البصریۃ فاذ اصل  
العبد الی مبادی اقسام تجھی و ہو مطالعۃ فعل الہی مجرداً عن فعل ماسوی اللہ تعالیٰ نیکون تناولہ  
الاقسام من الفتوح و قیمت کہ مکتوب شاریف فقیر عازم سفر ہندستان بود بدیں سبب  
حوالہ اجمالی نوشہ تھے گردید میں گوئیم کہ اللہ در امور الوراء است و از دیدن و دانش مخلوقات

میباشد

اک کہ بروے کے کشف شد ایں راز ہا اوسیار د بزرگان اسکرار ہا

بِسْ تَرْكُكْ كُنْم مَاسُوي الْشَّرِّدَرَا دَمْ نَزْنَم بَعْدَ ازْنَسْ بَجُون دَچْرَا

وَالْسَّلَام ۱۲

## مکتوب چشتیارم ایضاً بنام خلیفہ ملا امان اللہ صاحب گہرائی

الحمد لله وسلام على عباده الذين صطفى - انحوى عنی ارشدی عزیزا زجان حاتق و معان  
نشان مقبول بارگاہ اللہ الرحمن الوہاب ملا امان اللہ امنهم و سلمہم اللہ سبحانہ عن الآفات فی  
الدارین بحرست البنی الشقلین -

از فقیر دوست محمد احمدی کان اللہ لاء عوضا عن كل شئ بعد از سلام منون اشتیاق  
مشحون مطالعہ نمایند - الحمد للہ که فقیر تاہین تحریر که دھم ماہ مبارک رمضان مے باشد بخیر است  
والمسئول من اللہ سلامتکم وعافیتکم واستقامتکم علی الطریقۃ المرضیۃ علی صاحبها الصلوۃ والسلام  
مکتوب مقبول مرغوب بمعنی حفظہ از دوست ملانصر اللہ رسید جزاکم اللہ عن اخیر الجنان اذ کثرت  
طالبان واذ زیارت احوال باطن ایشان معلوم کرده بودند الحمد للہ واثکر علی ذلک - اللہ زرہ  
فرزو کثرا خواننا فی الدین - ۴

قیاس کن ز گلستان من بہار مراد

شکر ایں نعمت بجا آرہ نہ لکھن شکر تھڈ لاؤ زیدت پتکم نص قاطع است

دادیکم تراز گنج مقصوں شان گرمانز رسید کم تو شا بد بر سی

حق سبحانہ و جو دشما را آفتاب ہدایت دراں ولایت فرمائند بمنہ و کرمہ و لطفہ اسلوہ چند پر سیا  
بودند جواب ہر کیک نوشته مے شور - بد انید بعضے طالبان کہ قبل از بیعت از عرش تا فر شر  
و جو دشیخ مے پیش دیجیز دیگر نہ پیند بجز صورت شیخ - مخدوما در حقیقت متصرف حق تعالیٰ است  
و بظاہر پیر آنکت ہدایت بعضی از مخلوقات گردانیدہ اند - اول تخلی کہ از حق تعالیٰ باو مے رست

۱۵ تا ثڑے ۱۲



تجھی ارادی است که طالب را بطلب ذات حق تعالیٰ دلالت می نمایند بسوی شیخ معروف یا غیر معروف حق تعالیٰ صورت آشیخ در عالم معانی و عالم غیب و عالم مثال در حالت خواب یا در حالت بیداری بر قلب طالب تخلی کند بصورت احاطہ نہ عین احاطہ در خیال ذہن او صورت شیخ منقش مے سازد بواسطہ عشق و محبت پس بہ جا کہ لنظر می کند صورت معنوی و مثال مرشد کہ محیط مرکہ قلب مسترشد است آں رامے بینید و بقدرست کاملہ حق تعالیٰ اشیاء و بیگراز نظرش دور و مخفی می کند ان اندھے علیٰ کل شئی محیط محیط حق تعالیٰ است نہ بندہ ذرہ بے مقدار لاشے محیط عالم کے شود۔ وایں حالت را صوفیہ صافیہ فنا فی الشیخ مے نامند۔ و بغير فنا فی الشیخ سلوک محال است۔ و کسانیکہ کلمہ انا الحق و سبحانی وانا انا دمنم منم مے گویند ایں حالت را بزرگان فنا فی الشرگفتہ اند۔ معرفت توحید وجودی کہ اہل توحید می گویند ہمین است۔ اگرچہ ایں حالت قوی و نعمت است در راه طریقت پیش می آید مقصود نیست، مقصود توحید شہودی است۔ سالک ایں معرفت ثانی، خود را ذرہ بمحقدار بلکہ لاشے بینید تیج گاہ کلمہ ما دمن بزرگان نہی آرد۔ حالت توحید وجودی درین طریقہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بر طالبان واقع نہی شود و اگر بالفرض واقع شود کم اندک زمانے باشد پس قطع مے شود و آں کم در طائف ولایت صغیری و محل قوی قائلان توحید در دائرة ولایت صغیری است و ترتیک طالب بدائرہ ولایت کبری بر سر معرفت توحید شہودی دست مے دهد توحید وجودی اصلاحی ماند و در نجوم ظاہرہ و اقامار باہرہ و شموس طالعہ اقوال مشائخ بیمار است۔ و پر دست گیر من خواجہ خواجگان پیر پیران امام الطریقة اعنی حضرۃ شاہ احمد سعید صاحب قلبی در وحی نداہ برائے ایں سکین چپیں بزرگاں شستہ بودند نجوم ظاہرہ عبارت از فیوض و برکات دائرة ظلال اسماء و صفات است کہ ماند کثرت جلوہ گرمے شود و اقامار باہرہ عبارت از فیض نفس صفاۃ و شیوناۃ است و شموس طالعہ کنایت از تجلیات ذاتی است و کلام حضرۃ برائے ما و شما کافی و شافی است حاجت تفصیل دیگر نیست۔ و نوشته بودند کہ طالبان بله لطیفہ قلب روح فنا فی الشر و لقا باشد می شود یا نہ۔ چرا فنا نہ شود کہ ہر لطیفہ را فنا فی الشر و لقا باشد است۔ فنا بر اذکر می کنم ا جمالانہ لقا را۔ فنا بر دوسم است۔ یکے فنا رطائف سالک است در جمیعت جذبه ایں نحو از فنا است نہ عین فنا کہ سالک ازیں فنا عود بسوی بشریت می کند کہ ہنوز در راه است و یکے فنا عین انا نیپت سالک

که خود را و جمیع ممکنات را معدوم مغض دید و جمیع اخلاق ذمیمه با خلاقِ حمیده مبدل گردید این ایں  
 فنا، مطلق و فنا، ائمہ گویند و ایں فنا را عود بسوئے بشریت ممکن نیست و طالبان که در طیفہ  
 خپی بیان دائرہ قوس میے گفتند دریں جاظزو عین دائرہ قوس نیست بلکہ پر تو است اذان مقام  
 نہ عین آک مقام بایں دلیل کہ بزرگان اصل قلب در ولایت صغیری واصل روح در دائرہ  
 او لے ولایت بکرنی واصل سر در دائرہ ثانی واصل خپی در دائرہ ثالث واصل اخپی در دائرہ  
 قوس مقرر کرده اند پس ہرگاه کہ ایں اصل برائے لطائف ثابت شد لاچار پر تو عکس اصول  
 در لطائف نمایاں میے شود۔ خصوص در طریقہ شریفہ نقشبندیہ کہ اندر ارج نہایت در بدایت  
 است چنانچہ حضرت شاہ نقشبند فرمودہ ما نہایت را در بدایت در رج میے کغیم وايضًا فرمودہ  
 معرفت تعالیٰ بروہما، الین حرام است کہ اول قدم من آخربایزید نہایت شد، طالب اب دن  
 مستعد کہ عشق و محبت پیر خود بسیار دار د ساعت بساعت بزرگ پیر خود منصب می گرد  
 پس بالضرور عکس احوال توسط و انتہائے پیر در طالب مبتدی پیدا میے شود ازیں تقریباً  
 معلوم شد مرید مبتدی کہ بمقامات عالیہ نرسیدہ و احوالات توسط و انتہائی در طاہر شد  
 احوال پیر است کہ مرید مستعد آئینہ پیر میے باشد۔ امر شیخت بسیار سخت است فراست  
 صحیح و وجدان قوی میے خواهد۔ و قصہ موافق مشیخت مذکور نوشته میے شود کہ شیخ میان عبد الغفور  
 بیگ صاحب از خلفاء کلاں شاہ صاحب بود کہ جمیع سلوک راتمام کرده یک روز در  
 خانقاہ شاہ صاحب در میان حلقة مریدان توجہ میے نمودند ناگاہ یک آدم از در در آمد پست  
 میان عبد الغفور بیگ صاحب بیعت نمود و اورا توجہ کر دند۔ بعد از توجہ بهماں ساعت اورا  
 فرمودند شمارا فنا و بقا حاصل شد کارشما بسر انعام رسید۔ ایں فقیر در آں جا حاضر بوده متوجه  
 شد میزد حضرت پیر دست گیر خود آدم ایں قصہ راعرض کر دم کہ میان عبد الغفور بیگ  
 صاحب بیک ساعت مریدان را بفنا و بقا میے رسانند۔ حضرت پیر دست گیر من فرموند  
 شیخ عکس خود را دیده خیال کر ده کہ فنا و بقا طالب است۔ انتہی۔ یک جزء از قرآن شریف  
 هر روز بلانا غفران در دلالت الخیرات و حسن الحصین خواندہ با شتمہ اجازت است۔ حق بمحانہ  
 و تعالیٰ شمارا از یعنی توجہ پیران کبار من نسبت قوی و ترقیات بھے شمار و فراست خوب داده  
 است امامت شدن را بفنا و بقا و طے کر دن مقامات ایشان اطلاع و اشارت نہیں  
 کہ خزانی طریقت است اگرچہ پیران مجتهدان ایں فن ہستند قضیہ مقرر است المحتد قدر

یصیب و قدحیلی، مجتهدان ایں علم اگر مصیب شوند خوب و اگر نہ نقصان و عیوب از طالبان  
ناقص بذات شیخ عالم است نقیر ملا الحنفی رأفتہ بود کہ در اول بحار براں صوب روانہ نیشود  
سب تعطیل چہ بود سے

خوبی دیں معاملہ تعطیل مے کنند

و پیر اندر کہ از ریاضات و حجایات مطلب راحت نفس کند و دنیا مقصود او باشد  
اگرچہ از وہیز ملے سچا سب و خوارق عادات ظاہر شود آں استدراج و مکا است دلثانہ  
استدراج آں بود کہ از عیوب نفس خود کو زور کم اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اراد  
اللہ بعید لاشروا اعمی بعیوب میں نفس و اذ اراد که ادل بخیر ابصر بعیوب نفس.

و هر کہ ذکر و عبادت کند برائے حصول داش آسمان ہاؤز میں ہاوس سیر و طیران آں و  
کشف و کرامت و خوارق عاد است و مانند آں، پس آں کس عابد آں شد نہ عاپد حق تعالیٰ  
و عمر خود ضائع کر دہ باشد۔ چنانچہ بزرگان گفتہ داش ناسوت و سیر آں و تصرف دل  
اعتبار نہ دارند۔ چنانچہ در بخراست کہ در زمان حضرت رسالت علیہ السلام منافقان ہمہ  
در بغل گرفته نماز میں کردند۔ حضرت رسالت دل بخدا استند و دل بایشان نہ کردن و اگر  
مے کردند از حضرت حق تعالیٰ پا زمے مانند نقصان نماز میں شد کہ الصوّة معراض المؤمن  
عبارت ازان است۔ و در معراض خبر غیر گفتہ حرام است، و خبر گرفتن باطن مرمیان نقصان  
کبری است۔ چنانچہ روئے ظاہر کہ دانیدن از کعبہ فساد نماز است ہم چینی وے باطن از  
حق تعالیٰ کردانیدن مقرباں را فساد نماز است۔ و داش ناسوت و سیر آں و تصرف  
در آں خود قصیر و حقیر است بلکہ داش سیفت آسمان وزمیں معدود در عالم صغری است  
و عالم صغری از عرش تاثیلی است و ایں ہمہ از عالم کبری دور است۔ زیرا کہ داش مخلوق  
است و آں دور از داش خالق است۔ و داش کہ در عالم کبریے است علم اللہ توحید  
حقیقی و مشاہد و تجلیات است و سیر سیفت آسمان وزمیں و داش ایشان بیوہ  
زیرا کہ فانی اند دور فنا کے ایشان حضرت اسرافیل علیہ السلام صور در دہان گرفته منتظر  
فرمان است۔ و سیر در ناسوت و تصرف و داش از سیر و داش ملکوت جبروت و  
لاموت قدر قدر است و مقرباں حق تعالیٰ بد اش ناسوت سرفونیارند. زیرا کہ شیطان ا  
ہم بقدر قدر خود سیر و تصرف ناسوت است بلکہ خروں ہائے جن داش فارند جا سیت

در درون فرزندان آدم کما قال النبی علیہ السلام الشیطان یھری فی الانسان  
کمجری الدار چہ ایں دو صدیث شریف کے قال النبی علیہ السلام کلمات شغلک  
عن ادله، فھو معبود لک وایضاً فرموده اند که کلمات شغلک عن ادله، فھو صنایع  
بریں مدعاً شاہدان عدل است. وچ خوش گفت شیخ حسن واعظ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ مراد  
بسیار خوش مے آید۔ نظم

افسانہ خویش مختصر کن      بنشین در درون خود سفر کن  
ہر و ہم فہم خیال و ادراک      در دل که جزو است آں بدر کن  
مطلوب بسے است در دو علم      از دل تو گذر ازان حذر کن  
این است وصال جان جاناں      زیں راه بہر کسے خبر کن  
و بد انند کہ کرامت بر د قسم است. قسم اول ظہور علوم و معارف الہی است که  
بذات و صفات و افعال واجبی تعلق دارند کہ در آئے طور نظر و عقل است و خلاف متعارف  
و معتبر کہ بندہ ہائے خاص خود را پاں ممتاز ساخته است و مخصوص باہل حق وارباب معرفت  
گردانیدہ۔

قسم دویم با کو ان تعلق دارند و مشترک میان محقق و مبطل است. اہل استدراج را  
نوع ثانی حاصل است۔ نوع اول نزد حق تعالیٰ شرافت دارد کہ با ولیا خود مخصوص  
ساخته است و گرامان و اعداء را در ایشان شرکت نماده۔ نوع ثانی در عوام معتبر است  
صاحب نوع ثانی در ایشان معزز و محترم۔ ایں معنی از اہل استدراج ظہور میں نجایند  
نزدیک است کہ عوام از ندادانی وے را پرستش می کنند۔ مثل مشهور است کہ مے گویند  
”الناس تابعة للأخص الارزيل كالنتيجة تابعة للأخص الارزيل“۔ بلکہ ایں مجوہ با نوع اول  
و اذکرامات و خوارق نے شمرند نہ ہے بلے خبر دان علمی کہ باحوال مخلوقات حافظ و غائب  
تعلق دارد کہ ام شرافت در وے حاصل است بلکہ ایں علمت پیان آن است کہ بھل میں  
گرد تانیان از مخلوقات و حالات ایشان حاصل نہ آید معرفت واجب محال است  
تعالیٰ و تقدس کہ بشرافت و کرامت سزاوار است و باحترام داعزاد شایان است  
پری نہ فتنہ رُخ و دیور کہ شمشہ و فاز  
بسونت عقل نہ جیرت را ایں چہ بوجبی است

از پیش جاست که از مستقدیم مثل سید الطائف حضرت جنید بخارا دی رحمۃ اللہ علیہ معلوم نیست که رَدَّ خوارق عادات از و نقل کردہ باشند. حضرت حق سبحانہ از حال گفتم خود چنیں خبردا ده است و لَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ بِسِعَةٍ أَيْمَنٍ بِسِعَةٍ كثیرت خوارق دلیل افضلیت صاحب آن نیاشد و قلت که ام است دلیل نقص آن نه. بسبب آن که ظهور خوارق داخل ماهیت دلایت نیست بلکه از لوازم آن است و با است که کرامات بزر و بگزرد و اور ازان اطلاع نیاشد. کرامات که ارباب ارشاد راضوی است آن است که مریدان رسید را از خلقه به خلقه بزرند و از حالے بحالے گذارند و مسترشدان هر زمان از مرشد خویش کرامات و خوارق عادات مشاهده می نمایند و در قلب خود آشنا تصرف شیخ پیدا و ہوید امعانه می فرمایند اوپیا. اللہ را لازم نیست که بر عالمہ خلق اللہ انعام کرامات نمایند بلکه معاملہ ولایت باستثاریت است. أَوْلَى الْأَئْمَاءِ تَحْتَ قَبَائِيْلَ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ بُرْسِ مَدْعَاتِ شَاهِرِ عَدْلِ اَسْت. وَكُفْتَهُ اَنْعَقُوبَةُ الْأَبْيَاءِ جَسِ الْوَجْهِ وَعَقُوبَةُ الْأَوْلَيَاءِ انعام کرامات و عقوبة المؤمنین التقصير في الطاعات ۵

از نعمت ایں جہاں شناۓ تو بس است

وز نعمت آں جہاں لقاۓ تو بس است

حضرت مجدد الغوث ثانیؒ فرموده اند که شمول و عموم ایں نعمت یعنی گویا شدن دل بزرگ حق تعالیٰ و حضور چند بات و کشفیات و بدایت تعلیم مرطابیان ایں طریقہ را از الحاقات لازم البرکات حضرت خواجه ما است رحمہ اللہ تعالیٰ ہر چند کہ سابت ایں اکابر بوده اما بایں تعمیم در بدایت نبودند. احوال و مواجهہ را چیز اعتبار نباید نہاد بلکہ کرمت را پاید بست که بمحض احوال تو اس رسید. پیران کبار من احوال و مواجهہ را چند احوال اعتباۓ نہ می نہند نقیب گفتہ بودند کہ بجائے خودشین بفقرو فاقہ گزیں. و کے گفتہ کہ بہرات بروند. و گفتہ بودم کہ سبب شما انشا، اشر تعالیٰ بہرات می رست. درسال آیندہ نزد من بیایند بعد ازان اگر عزم کنند خوب است. اہم خان را چہ کنند و پار محمد خان را ۶

مردگانشدا غنیما، روزگار اے اخی بامر دگان صحبت مار

سبحانکت لا علم لنا الا ما علمنا انک انت اعیم لحکیم اللهم لا تخلنی ای نفسی طرقہ عین دلائل من ذلک، الاسلام علیکم دعی من لدمکم ۱۲

مکتوب بسچم بحضور پیر دستگیر خود حضرت احمد سعید صاحب مجددی،  
دہلوی ششم المدّنی قدس اللہ سترا

حامد ایش تعلیے اذاؤ مصلیاً علی نبیتہ ثانیاً والسلام علی آله وصحبہ آخرًا، حق سنجانہ  
سایہ ارشاد پناہی دلنشس ولا بیت جاودائی بندگی حضرت قطب العارفین امام الحکیم  
الیقین مغیث الوری آئین القلوب والنهی نقطه رائرة اقطاب سکینۃ القلوب العاشقین  
مفتاح خزانہ العرش ولیتہ اللہ فی خلقہ خلیفۃ الشرفی بریتہ مجتبی الشریعۃ والحق والملائکۃ  
الدین شمس الاسلام وہیمین، المخصوص بالطاف رب العالمین اعنى پیر دستگیر من غوث  
الاعظم قلبی دروحی فداہ برست کافہ انام مستدام دارند بکشہ وکرمہ ولطفہ علی المخصوص حق  
محمد و مزادہ گان و صاحبزادہ گان کرام را دلخیظ و حمایت خود با جمیع اہل بیت مصوون محفوظ  
دارند و خدام آں حضرت و ملازمان آں چناب یا یعنی معجم فائز فوزاً عظیماً۔

عرض می دارد ایں حضیض نیاز مندان برائے روضہ معارج نازکہ مسند معالیٰ اعزاز است  
کہ شرفی اللہ بین عنایت خود قبول و عزیز گردانند و از نظر رحمت عیم خود اگرچہ بے ادب  
و بے عمل و نالائق است فرو نگذارند کہ بندہ خاص درگہ توام ۵

بے لطف قومن قسر نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد  
گر بہتر ننم شود زبان ہر موئے یک شکر تو از هزار ایں نتوانم کرد  
د عرض میدارد ایں تباہ حال آنکہ از احوالات باطن الحال ایچ اثر نمی یا یکم نہ درحال  
اذکار نہ درحال مراقبہ نہ در وقت تلاوت قرآن مجید و نہ در حین ادائے صلوٰۃ فرض  
کان ادنفلہ مگر صرف یقین و تصدیق از قلب خود بر موجویت زات و صفات بے چون و  
بے چکون حق تعالیے و یقین و تصدیق بر عدمیت غیر خود را و جمیع ممکنات را ناچیز ہے بنیم چکہ  
محی و علیم و قادر و واجب الوجود و واحد و سمع و بصیر فعال تمایزید و متكلم و اول و آخر و ظاهر و  
باطن و خالق و رازق و متصرف بہر اشیاء او است یقین و تصدیق می دانم  
ممکن را از حقیقت عدم بقدرت کاملہ بوجود آور دہرگاہ کہ حقیقت ممکن عدم مشد پس ممکن را

از خود نہ ذات ماند و نہ صفات حق ماند و بیس ۵

من نبودم جہاں نبود خدا بود من نباشم جہاں نباشد خدا باشد

ویقین و تصدیق در امور اخرویه چنانچه حشر و شر و جنت و درزخ و ثواب و درجات حسابت  
وعذاب و عقاب بر سیاست را مثال آن دیقین و تصدیق در مقامات عشره که مصطلح صفویه  
است چنانچه توکل در همگی امور بحق کردن داور اکفیل رزق نہستن و صبر بر امور شناقت کردن  
وجزع و فزع ناکردن وغیره ذکر من المقامات العالیة الارضاء چرا که رضا بر رضا کے اتعالی  
شانه در جین گرفتاری بندہ ببلیات و مصائب حق تعالیٰ کا ساخت است اگر فضل حق تو  
باشد آسان است و بزرگان در قدریفی رضا گفتہ اند که الرضا سرور القلب علی مصائب اشر  
تعالیٰ مصائب که فضای حق در رسول حق است بر بندہ در افق باشد چنانچه قحط و طاعون و  
ملائکت اموال و اولاد و مادر نفس پاشد چنانچه دست دپائے و گوش ببریدن و مریض و گرسنه  
دشنه شدن وغیره ذکر قربان حضرت شوم حال خود می گوییم که سرور در غبہت و محبو بیت  
ایں امور در قلب نمی شم بجز صبر که از صبر کردن چاره نیست وقتی که سرور در غبہت  
ببلیات و مصائب حق تعالیٰ انشد رضا بر رضا کے حق نشد هرگاه که رضا بر رضا کے حق نشد  
حقیقت بندگی و طاعت نشد و قبیکه از بندہ طاعت و بندگی نشد عیاذ با شر محسوس الدنیا  
والآخرة شد درین امشکل چاره دیگر نمیست مگر پیر دستگیر خود شفیع آدم و هاشم حضرت  
پیر دستگیر خودی روی نظره التجا آرم که در حق این عاصی رو سیاه دخاد توجه شر لفینه عنایت فرمایند  
تاکه رضا بر رضا کے حق شود و رضا بر رضا کے پیر دست که رضا کے او رضا کے حق است  
رضا کے حق رضا کے او است ۵

### وكلت الى المحبوب اهوى ﷺ الشاء احیانی والنشاد تلقانی

ویقین و تصدیق در سار احکام الشریعه ما مورا کان منا ہیا از و قبیکه بقدم بوسی پیر دستگیر  
خود رسیدم تا بایں وقت می دانم که بوز بر وزنیقین و تصریحیت خود را در همہ امور زیویا کان او  
وینیا بفضل حق تعالیٰ و بعنایت نظر پیر دستگیر خود زیاده زیاده می بینم الحمد لله رب الشکر بشد  
علی ذلک اگرچه قبل از بایں امور ویقین و تصدیق داشته بودم اما این ویقین و تصدیق نه  
تصدیق اول است آن یکے و ایں دیگرے شستان را بینه ما قبل از بیش و غر و ش و  
ذوق و شوق و آه و نعره و بے خودی در مستر شدان از حد زیاده بودند حتی که در اوائل حال ذکر  
از قلوب طالبان خاص و عام می شنیدند که کلمه مبارک آللہ می گویند چنانچه از انسان ظاہر

مے شوند. الحال جوش و خروش از طالبان نہاندہ مگر اجیاناً۔ و چند کس از طالبان حق را با مر  
حق سُبْحَانَهُ وَبِإِنْحِلَالٍ بِهِ وَبِأَمْرِهِ وَارْشَادِهِ پَيْرِ دِسْتِگَیرِ خود اجازت ترویج و انتشار طریقہ شریفہ  
داده ام الحمد للہ خوب اثر پیدا کر دہ اندر جوش و خروش و فرق و شوق و آه نفرہ دبے خودی  
و کشف و کشف و اکتوبر و انواع حالات و حلقة طالبان ایشان بیار است الحمد للہ علی ذلک  
و این کیم غریب شکستہ تھا بے تو ماندہ محب و مخلص کہ غریب بخار فراق دنوایر اشتیاق  
دوست محمد کہ کیم نعلیم بردار آں عتبہ شریفہ است چند عرصہ ما و مدتھا کہ از قدم بوسی و  
دیدار آں صاحب محروم ماندہ ام کہ زنجیر تقدیر و سلسلہ مشیت در حرمان زندان هجران...  
محبوس می دارند جز صبر و سلیم چارہ ندارد ۵

کے دم ز چون و چسرا نمی تواند کل قشیدہ حادث نہ کے چون چراست  
شود میں ستم دریں جہاں اینم کہ باز با تولد شادماں مشینم  
سرشت بدست تست ننم دست آموز چوں سوئے خودم کشی بسرا باز آیم  
اگرچہ درخور تو نستم قبولم کن و اگر بدم دا گرنسک چوں کنم اینم  
لتسلیمات والبرکات والمرحمات من اشتر تعالیٰ علیکم و علی من لدیکم ۱۲

### مکتوپ ششم بنام ملا محمد جانان صاحب کرن مُرغہ !

الحمد للہ جاعل الذکر والهداۃ شریعۃ و منہا جا، والصلوۃ علی نبیتہ محمد پیر ضل الناس فی  
دینہ افواجا و علی آلہ و صحبتہ لکیم بسیرہ سپیلا و ارشادا۔

اخوی اعزی ارشدی ملا محمد جانان صاحب سلمہ اشتر تعالیٰ عن البیات الافقیة و  
الانفیتیة از فقیر دوست محمد کان اشتر لہ عوضا عن کل کشی۔ بعد از سلام مسنون اشتیاق  
مشخون کا شف مافی لضمیر باد، الحمد للہ کہ فقیر تاھین تحریر بمعہ متعلقان و درویشان بخیر و  
عافیت است، والمسئول من اشتر تعالیٰ سلامتکم و عافیتکم واستقامتکم علی الشریعۃ و  
الطریقہ المرضیۃ علی صاحبها الصلوۃ والسلام۔

اے برادر حقیقت بندگی در عبادت از خضوع و خشوع و شکستگی برائے جناب حق ان  
کر شہود عظمت حق تعالیٰ بر دل بندہ ظاہر شود و این سعادت و عنایت مو قوف بر مجتب  
است و مجتب منوط بر متابعت سید الاولین والآخرین است علیہ الصلوۃ الظہار و من

التحيات اکملها و متابعت موقوف برداشت طریق متابعت است پس بضرورت ملازمت  
علماء که وارثان علوم دینی اند از پرسکے ایں غرض ہے پایید کرد و از ملائز مت علماء که علم را وسیله  
معاشر دینیوی و سبب حصول جاہ گردانیدہ اند دور پایید بود و از محبت درویشان که قص  
دسماع و تفہی می کنند و ہرچہ باشد بے نخاست اگر زندو می خورند و با موسر شرعیہ تقید نور زند  
پر ہیز پایید کرد و از شنیدن توحید و معارف کہ سبب نقصان عقیدہ در مذہب اہل سنت  
و جماعت شوند دور پایید بود تھیصل علوم و نظہر معارف حقیقت بازبستہ بہتا بعثت محمد  
مصطفیٰ علیہ السلام است بزرگان و پیران ایں فقیر مثاہدات النوار و تجلیات واقعات  
و مقامات و کشف و کرامات و خوارق عادات را اعتبار نہ نہادہ اند و مریدان راسعی و جد  
در استقامت بر شرع شریف و در حصول دوام حضور و آگاہی امر بلیغ می فرمائند باقی و

## السلام ۱۲

### مکتبہ فتحم ایضاً مُلا جانان صاحب معصوف الصدر

الحمد لله رب العالمین کثیر اطیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا و یرضی، والصلوة والسلام  
الاتمان والاملاک علی جیبہ لصفی و علی آلہ واصحابہ الْجَنَّۃِ.

اما بعد الحمد والصلوة اخوی اعزی ارشدی ملا محمد جانان صاحب سلمہ اشر تعالیٰ ربہ از  
فقیر درست محمد عفی عنہ بعد از سلام مسنون اشتیاق مشحون مطالعہ نمایند الحمد لله کہ تا  
ھیں تحریر فقیر از جمیع رجوہ بخیر است و المسوول من اشر تعالیٰ سلامتکم و عافیتکم واستقامتکم  
علیٰ جادة الشیریتیۃ علیٰ صاحبہا الصلوة والسلام۔ نوشتہ بورند کہ حال باطن درزیار  
است. اللهم رد فرد حق سبحانہ و جو دشمار آفتاب پڑیت سازد بمنہ و کرمہ و لطفہ۔  
اسے برادر ستر یہ عبادت ذکر خداوند است جل سلطانہ و سعادت عظمی کے راست کے  
از علائق عالم منقطع شود و اذ شریت حق تعالیٰ برے ہے غالب شود۔ غلبۃ انس و محبت  
حق تعالیٰ جزو بد و ام ذکر اذ تعالیٰ میسر نہ شود و اصل ہے اذ کارکمہ مبارک آللہ است  
و لا کارکمہ آللہ است۔ و تیجھے حقیقت ذکر آں بود کہ از ہمہ اشیا گستہ شود و بغیر  
محبت الہی بیچ چیز التقافت نہ کاید حتیٰ کہ از وجود ہم گریزان باشد و از ہمہ ماسوئے  
رفیعے گرداند و مستغرق ذکر حق تعالیٰ شود فائدہ کلی از ذکر آں گاہ حاصل شود و ترک ذمیا و

ترک شهوت و ترک ملایی و نجات از شر نفس و شیطان بواسطه تکرار ذکر حق است. جل و علا. قل اللہ ربیں و ماسوئی ہوس و عبیث و انقطع علیہ نفس. اللهم لا تکلنی الی افسی طرف عین ولا اقل من ذلک باقی والسلام.

### مکتوپ شیوه سیر بنام خلیفہ ملا امام ارشاد صاحب ہراتی

الحمد للہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علی خیز البریۃ وعلی آلہ الطیبین الطاهرین۔

اخوی اعزی ارشدی ملا امام ارشاد سلمہ ارشد تعالیٰ۔ از فقیر دوست محمد کان ارشد تعالیٰ عوضا عن کل شی و شبتنا ارشد تعالیٰ وایا کم علی الشرعیۃ النبویۃ والطریقۃ المرضیۃ علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام۔ آدم کہ ارسال داشتہ بودند رسید۔ نذمت و ملامت خلق خو جمال ایں طائفہ است و حیقیل زنگار ایشان است، بکار خود مشغول باشند و طابان کہ ذکر در طریقہ نقشبندیہ بھیر مے گویند وستی مے کنند ایشان را بگویند کہ ایں فعل باختیار است یا بغیر اختیار۔ اگر باختیار باشد دریں طریقہ جائز نیست و کسانیکہ بے ہوش شون در وقت صلوٰۃ معذور انہوں اک را بعد از افاقہ پہ تجدید وضو۔ و اعادہ صلوٰۃ امر فرمائند و توجہ باطابان انک کنید چرا کہ توجہ و افریبتدی را مضرت مے رساند۔ والسلام علی من اتباع الہم والتزم متابعتہ المصطفیٰ۔

### مکتوپ نعمت حضرت پیر مرشد خویش قدس سرہ

حامد او مصییاً و مسلمًا بعرض مرشدنا و امامنا و مقتدا و سیلتنا و شفیعنا فی الدارین۔ و کعبتنا و قبلتنا پیر مرشد برحق اعی حضرت شاہ احمد سعید صاحب قلبی دروحی فدام مظلہ ارشد تعالیٰ علی مفارق المسترشدین۔ از بندہ درگاہ مکررین خدمت گاران فقیر حقیر لاشی دوست محمد، بعد از تحالف الرأیات و تسیمات و افیات و دعوات صافیات می رساند که احوالات ایں سکین تاجین تحریر عرضیہ من جمیع وجہ مستوجب حمد و شکر است و صحت و تکریتی آن جناب عالی بعده صاحبزادہ گان کرام میاں عبد الغنی صاحب و میاں عبد الغنی صاحب و جمیع اہل بیت و خدام و لازمان آن جناب را از درگاہ ربت العزت خواستہ خواہانیم آمین یارب العالمین۔ بعدہ المرام آنکہ و قتیک سالک بجا لے رست کہ ذات خود و ذات جمیع مکنات

لائے و عدم مخصوص دیہ یعنی کہ مراد احمد بن راہگر ز جو دنیست۔ وجود مطلق وجود حق تعالیٰ است پس در مراتبہ معیت واقعیت و سائر مراتبات بچھے کیفیت تعین موردنہ تصویر فیض میے کنند۔ فیل از تیں حالت کہ در معیت لحاظ میے کر دندہ ذات کہ باما است و در اقربیت لحاظ فیض داتے کہ از من مبن نزدیک تراست و در سائر مراتبات ہم تعین موردنہ فیض میے نمودند الحال کہ ما میں موردنہ فیض نہما نہ وجود حق سُبْحانَه وَبِسْمِه وَبِحَمْدِه وَبِحَلْقِه بیض میے فرمائند و در معیت واقعیت حق سُبْحانَه لحاظ معیت واقعیت صفاتی دیا ذاتی است ارشاد فرمائند۔ و معنی مقام اجمع و جمع معنی لفظ مکون و بروز و بطن و بطن البطن۔ و فرق در میان ہمہ اوست و ہمہ ازوست بنا ہر تفصیل عنایت فرمائند۔ طالبان حق جل علا ایں غلام حلقة بگوش اذ برکت پیر دستگیر من نہایت بسیار اندر۔ تدریس کتب صوفیہ تدریس رسائل قدسیہ حضرات من می شود و ماسوا مکتوب شریف کہ درست نیامہ و ہرسہ وقت حلقة چنانچہ قانون حضرات ما است می کنم۔ فیوضات و برکات بے شمار است بہب آں کہ رابطہ حضرت ایشان بریں بندہ بحدے غالب است کہ خود رانی ہی نہیں بجز حضرت ایشان من قلبی در وحی فداہ قربان حضرت شوم در میان مردمان خوار و حقیر و ذلیل بودم پر تو قلب فیاض شما بر قلب سیاہ ایں بے عمل و بے کرد ارتقا فت مرا عزیز گر دانید و اگر نہ من ہیں ایشان دوست محمد حقیر م بواسطہ نظر تو عزیزم، شکر ایں نعمت شما ادا نتوانم کرد

گھر بر نہم زبان شود ہر مر موئے  
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

از دنیا و اہل دنیا فارغ ابیال درزاویہ توکل حق تعالیٰ لاشستہ ام خطرہ د دغدغہ دنیا نے دون برکت توجہ حضرت خود در دل نہما نہ شب در زیاد حق جل و علام سرور و مشغولم و فتوحات کہ بواسطہ و سبب جناب شما از حق سُبْحانَه وَبِسْمِه وَبِحَمْدِه رسیدہ تھا می رسانم۔ و من با اہل نہیت ہم آسودہ می خورم حق سُبْحانَه وَبِسْمِه وَبِحَمْدِه خیرات شما قبول کند و در جات شما حق تعالیٰ بلندست از دیک ختم برائے خود حضرتم کہ مدام خواندہ یا شم عنایت فرمائند و عدد دش معلوم سازند کہ ثواب آں برائے حضرت خودم سخشنگ کنم۔ دلایا پا محمد را لفته بودند کہ در نزد حاجی صاحب برند و توجہ بگیرند از عنایت و ہر بانی حضرت است، اگر نہ بندہ لیاقت ایں امر کجا دارد کہ مریدان حضرت خود را توجہ کند و فائدہ رساند۔ احادیل بسیار خوش شدہ،

بسبب عنایت و مهر با فی حضرت خود که در برہ ایں سکین است از عین عنایت خود اگرچہ ملائی  
دی بے ادبم فرد نگذارند از عنایت حق تعالیٰ و از برکت عین عنایت نظر و توجه حضرت خودم کدر تے  
و ملالت دیگر داقع نیست سوائے دوری و محجوری ازال جناب عالیٰ  
چه نویم که دل از راغب جدائی خون است بل قلم است نیاید که زصد بیردن است  
اگر از خدمت تو مر بدل شرمندگی دارم  
چو قمری طوق بر گردن رشان بندگی دارم  
والسلام ۱۲

## مکتوب بِہم بِنَامِ خَلِیفَہ مَوْلَوی مُحَمَّد عَادل صَفَا فَوَّم کا کڑا کس نزوب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اخوی اعزی ارشدی مولوی محمد عادل صاحب سلسلہ ائمہ تعالیٰ - از فقیر حیر لاشے  
دوست محمد کمشہور حاجی است کان اشدله عوضا عن کل شئی بعد از سلام منون اشتیاق  
مشخون مطالعہ نمایند الحمد للہ که از صین تحریر کر سیتم ماه صفر ختم اللہ بالخیر والظفر است، فقیر  
بمعہ درویشان بخیریت است و المسئول من اللہ سبحانہ سلامتکم و عافیتکم واستغفارتکم علی الشریعۃ  
المحمدیۃ علی صاحبها الصلة والسلام.

با پیدائیت بر پیران لازم است که اعتقاد است اہل سُنّۃ و جماعت مرمریاں رانشان  
دہند و به روشن بزرگان خود آگاؤ سازند - ہذا قدر ہے ازال مسطور گردید - بدائیک تو آفریدہ و ترا  
آفریدگار است کہ آفریدہ گاریمہ عالم است و ہرچہ در ہمہ عالم است ازوست و آفریدہ گاری  
عالم یکے است و ہے را شریک نیست و ہمیشہ بودہ است کہ ہستی اور ابتدائیت و  
ہمیشہ باست کہ وجود و ہے را آخر نیست و ہستی و ہے را درازل وابد واجب است کہ نیستی را  
بوئے را نیست و ہستی و ہے بذات خود است کہ و ہے را بیع سبب نیاز نیست و ہیچ چیز  
از و ہے بے نیاز نیست و قوام و ہے بذات خود است و قوام چیز را به و ہے است و در ذات  
جو ہر نیست و عرض نیست و ہے را در بیع جا فرود آمد نیست و ہے را در بیع قالب فرود آمد ن  
نیست و ہے را بیع چیز مانند نیست و بیع چیز مانند و ہے نیست و ہے را صورت نیست و  
چند ہے و چونی و چونی را بوئے را نیست و ہرچہ در خیال و خاطر آید از کیفیت و یکیت و ہے

از الپاک است که ہمہ صفات آفریدگان است و خوردنی و بزرگی و مقدار را بوے را ہیت در جائے نیست و برجائے نیست بلکہ اصلًا جائے گی نیست و جانپر نیست و ہرچہ در عالم است ہمہ در زیر عرش است و عرش در زیر قدرت وے مستخر است و از صفات ہمہ آفریدگان منزہ است. دریں جہاں دنستنی است و در آک جہاں دینی است۔ چنانکہ دریں جہاں بے چون و بے چون دانندوے را نیز در آک جہاں بے چون و بے چکون بینند. دباید دانست چون ساک بعد از تصحیح نیت بذرکر الی جل سلطان اشتغال نماید و ریاضات و مجاہدات و فقر و فاقہ پیش گیرد و تذکیرہ و تصفیہ حاصل کند و حب دنیا از دل او بیرون رو دو صبر و تحمل و سلیمانی رضا حاصل آید و ایں معانی بقدر حوصلہ خود بتدریج و ترتیب در عالم مثال مشاہدہ نماید و خود را زکر دو رات بشری در زائل صفات پاک و مصافاً گرداند۔ ہر آئینہ سیر آفاقی راتمام کرده باشد و پیران ایں فقیر ہر لطیفہ را زلطائف نہ سر عالم امر در عالم مثال نور از انوار مقرر داشته اند۔ نور قلب زرد و نور روح سرخ و نور سر سفید و نور خفی سیاه و نور اخضی سبز و انوار لطائف عالم خلق شند ریج فیما۔ و نور نفس لتوامہ الجن گفتہ اند۔ حضرت علام الدوڑہ سمنانی قدس اللہ سره سرہ العزیز ہر نور را ز انوار لطائف سبعہ مرتب نہادہ اند۔ لوآن خاکی کدو رت رانور قالبیہ داشته اند و لوآن ارزق صاف را نور لطیفہ نقیہ داشته و لوآن احمر حقیقی صاف را نور لطیفہ قلبیہ داشته و لوآن اصفر صافی نور لطیفہ روح داشته و نور ابیض نور لطیفہ سر داشته و لوآن آسود و براق کہ از فوق بر سر نزول می کند نور لطیفہ خپی داشته و لوآن اخضر صاف نور لطیفہ خپی داشته۔ ہر ساک کہ در قوت متحیله خود ایں امور غیبیہ در صورت شہادت صیدہ قید می کند و محظوظ می شود از پر تو تجلیات تدریک کم کرہ مزہ و از صورت واشکال جہات است صحوب ماند۔ پس باید کہ بغیر ذکر حق جل و علا و مرافقہ و تلاوت قرآن مجید و صلوٰۃ و استغفار و درود شریف و انواع عبادات و شکستگی و بندگی ملتفت نہاشد کہ مقصود از ہندہ بندگی است نہ حصول انوار و تجلیات و کشفیات و کرامات۔ ازین جبت حضرت شیخ شبی علیہ الرحمۃ حصول و ظہور ایں چیزیں راجحاب حق سُبحانہ نامیدہ اند و مقام خیال پر ستان گفتہ اند۔ حضرت زین الدین قدس سر فرمودہ اند ہر شیخ کہ واقعات بر مریداں ظاہر می کند ساعی در جہات حجاب الحجاب ایشان است مگر چیزے کے تعلق بتادیب و تربیت اند و مرتبہ کس ائمکہ در باطن خود انوار و تجلیات نہ بینند از کسانے کے بینند کمتر نیت بلکہ بیشتر

است چه اکثر حالات در اتفاقات و کشوف کوئی ضعیف حالات را از سبب این می باشد که یقین ای شان قوتے گیرند و ارباب بیقین را باک چند اتفاقات نیست انتہی - سر برستنا  
لَا تَرِنُّغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَلَ يُتَكَّنَّا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً هُنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَّابٌ - داسلام

**مكتوب بآية دكم بنام خلیفه ولی محمد عادل صناموصوف الصدر**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

اخوی اعزی ارشدی مولوی محمد عادل صاحب سلمه ربہ - از فقیر حیر لاشی و مت محمد  
که مشهور ب حاجی است کان اللہ عوضا عن کل شی بعد از سلام منون و دعوات ترقیات  
مشحون مطالعه فرمایند الحمد للہ که تا چین تحریر فقیر بجهه درویشان و متعلقان بخیر است المسئول  
الله تعالی سلامتکم و عافیتکم و ترقی ارشادکم پوئا فیو ما ساعۃ فساعت ویرحمهم عبدا قال آمینا - بذا  
ذکر عقامۃ الصوفیۃ اجمالاً -

جمعوا الصوفیۃ علی ان اللہ تعالی و احص احده لا شریک له ولا ضد له و  
لا ند له موصوف بما وصف به نفس و مسمی بما سمی به نفس الوریزل  
قد یمایبا سماویه و نعمتی و صفات خالق اجمعیع المخلوقین غیر مشبب بالخلوقین  
یو جیر من الوجوک ولا لة حلول فی الاماکن ولا بجزی علیه الزمان ولا یحيط به  
شی لیس بجسم فان الجسم ما کان مؤلفا و المؤلف یحتاج الى المؤلف لا جوهر  
فان الجوهر ما کان متحیزا او ربليس بمحیزا لانه خالق کل متحیز و محیزا ولا  
هم بعرض فان العرض مکا لا یبقى زمانیین و انت تعالی واجب البقاء دائم ولا  
ای تماع له ولا افتراق له ولا اعضاء له ولا ابعاض له ولا یز بجهه ذکر الدنا کروکا  
یلجه قی العبارات ولا تعلیم الاشارات ولا یحيط به الا فکار ولا تعلیم الابصار  
و کلمه آنسو رک الوهم او طنیاں فا اللہ سبحانہ بخلافه فان قلت متی فقد سبق  
من الوقت وجودها وان قلت کیف ذاته فلیس لذاته تعالی تکیف وان قلت  
این فقد تقدم هو على المكان احتجب بعظمته وکبریا ش عن العقل والابصار  
فان سئلت عن ذاته فلیس کممثله شی وان سئلت عن صفاته فهو احد

صمد لمريلد ولمريلد ولمر يكن له كفواً أحد وان سئلت عن اسمه فهو الله الذي لا  
الله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وان سئلت عن فعله فكل بيوه  
هن في شأنه واجمعوا تصويفية على ان الله تعالى لا يرى في الدنيا بالابصار ولا  
بالعقل الا من جهة الایقان واجمعوا على ان الله تعالى يرى بالابصار في الآخرة و  
السلام عليكم وعلى من لدكم.

## مكتوب دو از هم صحیفہ ملا همیت آخوندزاده هریپاک کسی نظری بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد از حمد و صلوٰۃ اخوی اعزی ارشدی ملا همیت آخوندزاده صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ  
از فقیر حقیر لاشے درست محمد که مشهور بحاجی است کان اسله عوضاً عن کل شئ بعد از ابلاغ سلام  
مسنون ددعوات ترقیات مشحون مطالعه نمایند که احوالات ایں فقیر حقیر در دریث ان تاجین تحریر  
محبوب محمد وستایش حق سجانه است امیداً ذکر کرم کریم چنان است که ازان طرف نیز چنین باشد  
نهیجت که بیاران نموده مے آیداں است که حامل سیر و سلوک که در صوفیہ معمول است،  
الصیاغ بصبغة اللہ و فنا رذائل و اتصاف ربها بحاجاً و مستور بانوار و یکیفیات که در مقامات  
پیش می آید و هر کراکی از فنا و بقاء و حالات قویہ بمقام رسمیده است بقوت درست اده  
وجست حق غالب آمده و تسلیم و رضا و توکل و صبر بوجه حسن بهم رسانیده اور افضل و شرف  
ثابت شده است بر غیر خود که درین امور ثبات ندارد. و برائے رفع قبض باطن و تیره شدن  
کیفیات تلاوت باستماع قرآن مجید بالترتیل و چین صوت و حزن و طول قنوت در نماز  
با کمال خضوع و خشوع مقرر است. و اصحاب بیار رضی اللہ تعالیٰ عنهم بهمیں اعمال قرب  
خورسند بودند. ذکر جهر متوسط با از حریز برائے ذوق و شوق و گرمی باطن احیاناً لا ایاس په. هر کا  
در دل انجداب پیدا شود بے اختیار آواز ذکر برادر و دلبندی می آیداں چنیں جهر اکس مانع نیست  
ذکر خفی افضل است بر جهر. بچندیں مراتب ذکر خفی ہر وقت می شود و ذکر جهر ماند جب دل نفی  
داشبات برائے حصول گذازی و گرمی مقرر است مثل دو است از الله ستر و کسل و اجتناب  
است از پرعت نامر ضییه و از تحقیر مسلمانی و عیسیٰ بینی و سخن چینی و خود اقدر نہادن. یا پیدا که خود  
را محض عدم یافتند و کمالات را باصل آں را دادن و حستنات خود را قبل قبول نمیدن سینا خود

مثل کو ہے بر سر گرفتن۔ و بدی ہائے غیر ربات ایل نیک نگاہ دشتن و وقایع رو ز مرہ راز ارادہ حق بسحانہ داشتن۔ ایں طریقہ اہل معرفت است رحمۃ اللہ علیہم۔ و حصول ثبت و توجہہ بے اعمال ظاہری محال است۔ نور اعمال را در اطمینان باطن اثیر نہیں است۔ اندر ون از التفات عظمت پیر استہ و بیرون باعمال و اخلاق نیک و سنتگی و انحسار آراستہ بالاتر ازیں کمال نیست اللہ ہر و فقنا الماتحب و ترضی۔ در وسط راه دریں طریقہ اذواق و اشواق عجیبہ وجذبات غریبہ در پیش می آئند۔ و احوال ایں طریقہ استمراری است و مکمل ایں طریقہ رادر مقام تجلی ذاتی دامی بے پرده اسماء و صفات و درجات آں قد مگلی است راسخ بے زنگی و غایبت لطافت و صفات ثبت باطن ایشان آمدہ که دست ادراک ازان کوتاہ گشت نارسیدہ گاں گویند کہ صحبت ایشان جمیعت ہا و صفائی حاصل است بس۔ نے بلکہ رسیدہ گاں بدر اهم تجلی ذاتی در افاضہ فیوض و برکات مشانے عظیم دارند۔ و مستفیدان در اندرک مدت حرارت و شوق و حضور پیدا کنند ہوَ اللَّٰنِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاسَرًا۔ طالب خدا را سمت باید بکراتب کمال رسیدہ شود۔ ہر آپنے شرط بلاع است با تموی گفتم۔ والسلام۔ و ایں فقیر را بدعاۓ خیر خاتمه یاد آرند کہ اللہ تعالیٰ بعنایت خود ایں لاشی را ایمان روزی گرداند آئین یا رب العالمین دعا والسلام خیریت انجام بجناب ملاہیبت آخوند زادہ صاحب از فقیر حقیر جاناں و جمیع درویث ان خانقاہ شریف رسانیدہ بحکم قبول فرمائند۔ دریں طریقہ شریفہ مجددیہ ذکر خپی معمول است۔ ذکر جھر کے رائقین نہ فرمائند مگر بے اختیار کہ از جوش دخوش و ذوق دشوق بزرگ آرند بآک نیست کہ حکم کردار نہ مغدو راست

## مکتوب بزہم بمولوی محمد عادل حسن کاٹر ساکن ژوب

### بسم اللہ الرحمن الرحيم

بعد از حمد و صلوٰۃ اخوی اعزی ارشدی محمد عادل آخوند زادہ سلمہ اللہ تعالیٰ من جمیع الآفات۔ از فقیر حقیر لائے دوست محمد کان اللہ عوضا عن کل شی بعد از سلام مسنون کہ نہست سید الانام است مشہود گردیدہ کہ طریقت دو جز راست۔ یکے جذب و دیگر سُلُوك۔ چوں جذبہ بحمد پیران کبھار اجمالاً برست ایک وارد می شود بغیر عمل کہ اختیار و عمل

سالک رادر حصولِ جذبہ دخلنے نیست الامانث ارالعذر کے موقف بمحض عنایت است پس  
در تفصیلِ جزء ثانی کہ عبارت از مسلوک است البته عملِ رکوشش رادر آں دخل است۔  
سالک راجحہ و نہیت درکار است کہ آنچہ مقدور است دراں سعی نہایند برائے تکمیل ایں ہر  
دو جزو مسلوک کہ بزرگان مقرر فرمودہ آں صاحب راجزراول بعنایت حق تعالیٰ حاصل  
است در جزو ثانی سعی بلیغ داشته عمل بعزیمت فرمایند نہ بفتومی کہ بنائے طریقہ حضرات  
نقشبندیہ بر عزیمت است و با نکسار تمام و عبودیت و عبدیت اوقات شریفہ  
معوردار نہ دیندہ رادر دعا یاد فرمایند کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ایں بے عمل را ایمان سلامت  
دارند۔ و ایں طرف خاطر شریف خود راجحہ دارند کہ تاھین تحریر خیر است۔ زیادہ والسلام  
مالا کلام سالہ ۱۳۶۶ھ۔ و حال است ایں سکت از چون دچڑا علماء مولوی صاحب تفصیل بیان  
خواہ فرمود -

## مکتوب پھارڈ کم مکلا ہمیت آخوندزادہ ہریپال سیخی

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اخوی اعزی ارشادی محبی و مخلصی مکرمی ملا ہمیت آخوند صاحب دام انقدر برکاتہ، و  
فیوضاتہ و سلامتہ۔ از فقیر حقیر لاثتے دوست محمد کہ مشہورہ کاجی است عفی عنہ احوالات  
فقرا، ایں حدود تاھین تحریر درستائش حمد و شکر است۔ والمسئوں من الشرف تعالیٰ سلامتکم  
و عافیتکم واستقامتکم علی الشریعت المحمدیہ و طریقہ الاحمدیہ علی صاحبها اصلی اللہ علیہ وسلم مخفی  
نمایند کہ مکتوب مرغوب در حسن الوقت ملائکہ ہیر آورده محکماۃ مکتوبہ واضح گردید۔ مزید  
فرحت خاطرم گردید۔ طریقہ بزرگان ماورع و تقوی و صبر و قناعت و توکل در رضا است شما را  
نیز باید کہ بایں ہا قائم مستقیم شوید و یک نفس از یادِ حق غافل و کامل نہایت شد۔ یک ساعت  
با خدا بودن به از ملک سیہانی است۔ دیگر احوال محمد عادل آخوندزادہ پدیں منوال است  
کہ پیش ایں در چند روز بصوب شہر قندھار روانہ کردہ امام بمعرفہ طالبان تاھین تحریر حوالش  
نہ سیدیدہ۔ دیگر از آدمان معتبر مسموع گردید کہ در شهر کابل نادر حال علوم مشدہ شہ عدد قبور  
کوڑکان ظاہر گردیدہ بہر حاجت مند کہ بمزار آنہا بیانہ حاجت آن حق سبحانہ و تعالیٰ بجفاہت  
سر انجام ہے رسانند۔ نہایت تشهیر یافتہ۔ باقی والسلام۔ تحریر فیالتاریخ دیہم ماہ جب

المرحّب - در اذکار و مراقبات که بیشتر تعلیم کرده شده برآئی داده است نمایند در این فطور نزد دپا طالبان و خلق تُرش روئی نباشد کرد. بِرَفْقِ رَحْمَمْ دُهْرَ بَانِي زَنْدَگَی بَايَشَان باشد کرد و از جمیع طالبان خانقاہ سلام مطالعه با دیگر معم قبول فرمایند<sup>۱۲</sup>

## مکتوب پانزدهم بمناسبت اخوندزاده صاحب قبیل حارمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وعليه السلام وعليه السلام وصلوة وسلام وعلى آله الاطهار واصحابه الاخيار ما دامت الليالي والانوار.

اخوی اعزی ارشدی ملا راز محمد صاحب او صدر اشرافی اقصی المراتب و عصمه من الحوار  
والنواب - از جانب فقیر حقیر لاشئ دوست محمد که مشهور بحاجی است کان اشراف عوضاً عن کل شئ - بعد از سلام مسنون و دعوات ترقیات مشحون مطالعه فرمایند - شد محمد دامنه که ایں نقیر مجده جمیع درویشان تاتار تصحیح ترقیم بذاته هر فده کم ماد جماری الشانی ۱۲۶۹ میلادی رطب اللسان  
بسیار حضرت منعم علی الاطلاق است بخدمت نعمائة و تکاثرت آلامه والمسئول من اللهم بجهانه  
بیل متنکم و عافیتكم واستقامتکم علی الشرعیة والطريقة والحقيقة فانها فوق الکرامۃ ويرحمم اللهم عبداً  
نانی آمیناً رقیمه کریمه که بصحابته جمیع فضائل و کلامات منبع محامد و نوالات مقبول احمد مولوی  
صاحب مولوی فتح محمد فرستاده بودند رسانید بورود مسعود مستحبها بخشید و احوال مندرجہ بوضو  
انجامید - المرام آنکه اخوی آرزی فقیر سین است که انفاس مستعاره حیات در مراضی حق بجانه  
مصروف سازند و اوقات عزیزه خود را که بدل ندارد ضائع نسازند و همگی اوقات خود را بظاهر  
مقید بشرع و در باطن مشغول بذکر حق سُبحانه دارند و دوام توجیه الی اللہ علی بال کسارت کام  
از اسباب قبول بجناب الی است و فلاج هر دو جهان من خسر دیں کار است و امور دین  
روزیا و ظاهرون بواسطه پیران کرام بجناب الی تفویض گردانند و مجاری کار را از تقدیر کار  
سازدیدن و برواق ایسے لبیچون و چهرانکشودن و با مردم مضاائقه و معارضه نکردن و از دلایل  
ایشان اعراض نمودن و مساوی بر روزنے کس نیا درون چه اهل اللہ ہرچہ می پیشند و ہرچہ  
می شنوند از حق می دانند و نظر از اشخاص که تعینات اندم تفعی می سازند بدگویندہ را

مکافات با حسان می نمایند و عفو و تقصیر است ایشان می فرایند - بع

هر که مارا پدرست اند را حقش بسیار باد

مقوله ایشان است و به توبه و صبر و قناعت و زهد و توکل و شکر و خوف و سلام و رضا،  
موصوف بودن و کشف و کرامات و خوارق عادات مثل عوام انس در نظر نیاوردان و از خود  
و مسوئی نا امید بودن و نقد و فاقه را نعمت عظیمی دیدن و طبع در مال مریدان و غیره نیاوردان و نظر  
بر قبول خلق در رذایشان نکردن و از غنا و اهل غنا محترم بودن و آنچه میسر شود لفظاً و رسانیدن  
و خدمت علماء و فقراء بمال و جان و تن کردن و از شر نفس و شیطان تا وقت مردن نایمین بود  
و خود را از جمیع مخلوقات حمیرد است و لاشے دیدن ایں همه اطوار پسندیده اند. خوش گفت

هر کجا این نیستی افزول تراست

کار حق را کارگاه آنراست

ای برا در رمگی متوجه حق سُبحانه باشدند و غم روزی خورند و مشوش و پیشان در طلب  
رزق نباشند که رزق از حق تعالیٰ جل و علام مقدور و مقر راست. و پیران کبار مأموره اند،  
قد سنا اشد تعالیٰ با سراسر ام القدس که امر روز در رویی به لقمه فروشی است خدا که تعالیٰ ازین رویی  
که دین فروشی است توبه دهد. اول سلامانی درست گشته بعد روزی پس طالب حق را باید که  
همیشه در طلب علم لدنی و تلاش نسبت صوفیه که غنیمت کبری است باشد و در جلس اهل  
دل و شخص شیخ کامل و مکمل بود اگر عزیزی را در یا بد که صحبت او و مفتاح نسبت جذبی باشد و  
ذت اشریف صحبت او در مردمان در میگردد باوی صحبت دارد تا حالت مطلوبه یعنی یادداشت و  
دوام حضور و آگاهی ملکه گردد. و در یافت من شیخ کامل و مکمل منحصر در این نیست که در فری خوارق  
عادات و اشراف برخواطر باشد و یاد چار و حال و شوق یافته شود زیرا که در بعضی از این چیزها  
جوگیه و فلاسفه و برآسمه هم شرکت دارند پس ایں امور دلیل سعادت نیست بلکه دلیل صحیح و عدالت  
شناختن شیخ کامل و مکمل آن است که اول یافت شیخ بر ظاهر شرع مستقیم باشد و برگتاب سنت  
عمل می نماید تا اطلاق متقی به شے ممکن باشد که حق تعالیٰ عزیز شانه و لا ایت را در تقویے حضر  
فرموده و گفته اون آور لیست اَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُوَكَلَّا إِلَهَ مُتَّقُونَ. اگر کسے گوید که بعضی اولیا روش ملامتی اختیار  
کرده بودند و در ظاهر از این ها آثار تقویی بنظر نمی آمد و بعضی کسان را فیوض باطن از انها رسیده  
گفته شود که نادر است و اعتبار غالب راست و نیز عقل و شرع حاکم است که رفع ضرر

از جلیب منفعت اہم است و مقصود تر پس جائے که ضرر متوجه باشد را انجا باید گرفت  
و شخصے کے در ظاہر متفق یافته شود باشے صحبت داشتن درست درست اور دادن قبل اختنے ندارد  
و احتمال ضرر مفقود است فائدہ از لئے رسید یانہ پس اگر صحبت ناٹیر کند که نزد علماء ظاہر  
و باطن معتبر باشد صحبت ایں چنیں مرد را کبھی احمد را نہ دعینہست کبری شمارند و اگر صحبت نش  
ناٹیر نہ دارد دیا آں ناٹیر نزد اکابر معتبر نبات حسن ظن باش شخص داشته صحبت اور تک دهد و  
در جائے کہ رشد خود بیند آں جارجوع نماید کہ مقصود حق جلستان است نہ آں مرد سے

باہر کے نشستی نشد جمع دلت دزنونہ ہید زحمت آب گلکت

ز نہار ز صحبت شگر می باش در نہ نکند روح عزیزان بحدت

و اگر کے گوید تاٹیرے کے اکابر آں را معتبر داشته اند واضح تر باید گفت گفتہ شود آں ناٹیر  
آن است که در صحبت حالت پیدا شود کہ دل از دنیا سر و شود و محبت خدا و رسول و دوستان  
خدا و اعمال صالحہ و توفیق حسنات و احتساب و بیزاری از سینات دید و از صحبت بمقتضائے  
اذار او ذکر اللہ خدا یاد آید و دوام حضور حاصل گرد و از یادِ اللہ الطینان و جمعیت میر شود  
و هر قدر کہ اعمال صالحہ کند نسبت و حالت که از آں کس بوسے رسیده در آں قوت یا بد و هر قدر کہ  
از و معصیت پیدا یڈنگی و بے آرامی در گیرد نسبت و حالت که از آں بزرگ او را رسیده باشد  
نقسان پذیرد و قال علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا سرت ک حسنات ک و اساءات ک سیئات ک  
فانتَ مُعْمَنَ كَنَا يَهُ از ہمیں الطینان و تنگی است ایں چنیں مرد را که صحبت ایں ناٹیر نزد اکابر  
و مکمل باید دانست و ایں صفت که در صحبت حاصل شود اور اکمال باید شمرد کہ ملازم است  
شریعت قطعیہ را مفید است دوام آگاہی را و مقرب است بطاعات و بعد است از  
معاصی و ممنیل است رذائل اخلاق را ذکر و عجب دریا و حسد و حب و جاه و مال و مانند آں  
و مفید است اخلاقِ جمیلہ و اوصافِ حمیدہ را از حب فی الشرو و بعض فی الشرو و صبر و شکر  
و رضا و رہ و مانند آں پس ایں چنیں مرد کامل مکمل اگر یافته شود صحبت غنیمت باید دانست  
و خود را کالمیت بین پیدی الغسال درست تصرف او باید داد و احوال و وار دلت آں چہ  
دارد شود آں را بیزار شرع باید نجید اگر قبول کند قبول و اگر رد کند رو باید نمود و وجہ و شوق و  
ذوق و مواجه و مانند آں آپنے بے اختیار پیش آید در آں معذور است و لقصد و اختیار ایچ  
حرکتے ایں حرکات که آں را عقل و شرع انور نمی پسند نہ کند کہ ہرگز اکابر آں را لقصد و اختیار

نگرده و اهل باطل را اعتبار نیست و کدام نیت نیک و مصلحت صواب درخواهد که حیثیت پوانگار  
را بر خود روادار دو آنچه بعضی اکابر گفته که رسوم صوفیه بسیج نمی اند زد همیں معنی دارد. حضرت محمد  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مکتوبے میے فریاند، مرید شید طالب مستعد ہر ساعت در سلوك  
طريق خوارق و کرامات پر احساس کند و در معاملہ غبی ہر زمان از شے مدد میے خواهد دیے پا بد  
و ظہور خوارق بحسب دیگران در کار نیست، اما نسبت مریدان کرامات در کرامات و  
خوارق درخوارق اندر چگونہ مرید احسان خوارق نکند کہ پیر دلِ مردہ مرید زندہ گردانید است  
و بکاشفہ و مشاہدہ رسانیدہ نیز دعوام احیائے جسدی عظیم اشان است و خواص باحیاء  
قلبی او روحی پرداختہ اند و متوجه احیائے دل مردہ طالب گشته۔ والحق احیائے جسدی ....  
نسبت احیائے قلبی کالم طرح فی الطريق است و نظر ہاں داخل لعوب و عبیث چہ ایں  
احیاء سبب حیاة چند روزہ، و آں احیاء و سیلہ حیات دامی است۔ بلکہ گوئیم کہ فی الحقيقة  
وجود اهل اشر کر امنت است از کرامات و دعوات ایشان مرحلہ را حق جل سلطانہ رحمتی است  
از رحمت ہائے الہی جل شانہ۔ احیاء قلوب اموات آیت است از آیت ہائے عظیم  
اشان۔ اماں اہل ارض اند غنیمت روزگاری۔ بہم بیرون و بہم پر زقون در شان ایشان  
است. کلام ایشان دو است و نظر ایشان شفا۔ ہم جلسہ اشر و ہم قوم لا شقی جلیسہم  
لا یخیب انیسہم۔ علامتی کہ حق ایں طائفہ از مبطن آں ہاں جد است، آن است اگر  
شخص باشد کہ استقامت بر شریعت داشته باشد در مجلس اور دل را بحضرت حق سنجانے  
و تعالیٰ میلے و توجھ پیدا نہ گردد و بہ درست از ما سو امفہوم میے شود آں شخص محی است و  
در عذر داولیا است علی تفاوت الدرجات ایں ہم نظر پار باب مناسبت است۔ بے مناب  
خود مخصوص مطلق است س

ہر کرا رونے بہ بہود نداشت  
دین رونے نبی سود نداشت

اے برادر مدار کار بر طاعت است هر قدر که ایں کار را مدار است مبارک است  
و آنچہ محل ایں کار خانہ است منوع۔ در جمیع افعال و حرکات کہ قصد کند نیت نیک مرعی  
دارد و بر صحیح عمل تائیت دست نماید ممکن اقدام نہ نماید و به عزلت و خاموشی راغب بود  
و اخلاق طب امردم بقدر ضرورت کند. و سائر اوقات بحرابه واذ کار بسر بر دوقت کار است

ہنگام صحبت در پیش است مگر صحبت که از برائے فائدہ و استفادہ است محدود است بلکہ  
لابد است ہم چندیں صحبت داشتن باہل طریق بشرط فانی بودن در کیک دیگر سخن لا یعنی در میان  
نیا و دن نیز سخن بلکہ در بعضی اوقات از عزلت رنج بود. و بہریک دیگر شادہ پیشانی باید بود  
کہ در پیش آبید باطن منبسط یا منقبض باشد و هر که بعد در پیش آبید عندر اور اقبال نماید و خلق نیکداشتہ  
باشد و اعتراض بر کے کمتر کند سخن نرم و ملائم گویند و کسے را الغضب پیش نماید بگریت و  
در سخن گفتگو رعایت قلب باید کرد و خواب بسیار و نہنده نماید کرد که ایں دل را میزند و جمیع  
امور خود را با حق تعالیٰ بسپار. و اے عزیز داماد ریاض حق تعالیٰ خود را محبوس دار تادل قواز تدبیر  
جمع امور فاغ شود چوں دل بیک جانب شود جمیع امور ترا او کفا یست خواهد کرد. و نیز مnde گان بر تو  
هر بار سازد که بامور تو قیام ننمایند. بالجملہ در یاد حق جل شانہ باشی و بتدریج امور نفس خود مشغول  
مشو. بر سیچ کس پنیر خدا اعتماد منما و در جمیع احوال عمل سنت را باید گزید و از بد عست ہما امکن  
احتراءز باید نمود و در زمان بسط حدو در شریعہ رانیک رعایت باید کرد و از جان باید رفت و  
در ہنگام قبض امیدوار باید بود و دل تنگ و مایوس نماید شدید و عذق حق بمحانہ نظر باید اشت که فرموده  
(ای کرمیہ) فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اه در شدت و رخا قصد کند که یکساں  
باشد. اے برادر اخلاق فقیر کون است نزو و فقدان و اضطراب است نزو و خود و انس  
بهموم و وحشت از فرعائے در در و خود است کوئی ظاہر و باطن متذبذب نشود و بے نیگی نسبت  
دیے مزگی احوال باطن از کمال نسبت ایں طریقہ شریفہ محمد دیہ است. چنانچہ حضرت محبوب سبھائی  
مجتهد و منتور الف ثانی ح در جلد اول از مکتوبات قدسی آیات در مکتوب دویست و پیست و یک  
حسیدین مانگ پوری فرموده دریں طریقہ در ابتداء حلاوت و وجود ان است و در انتهیا بے مزگی  
و فقدان که از لوازم ایاس و حرمان است بخلاف طرق دیگران که در ابتداء بے مزگی و فقدان دارند  
و در انتهیاء حلاوت وجود ان. و ہم چندیں دریں طریقہ در ابتداء قرب و شہود و در انتهیاء بعده و حرمان  
بخلاف طرق سائر شائخ. اللہم ثبتنا علی الشریعۃ المصطفویۃ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام  
اعتقادا و قولا و فعلا و حالا نی اہ رہتا لا تریغ قلوبنا بعده اذ هدایتتنا و هب لتنا  
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً طِیْلَكَ آنْتَ الْوَهَّابُ. اللہم ثبتنا علی اعتقاد اهل  
الستہ و الجماعتہ و مذهب ائمۃ الحنفیۃ و امتیتنا علیہا و الحشرنا علیہا و صلح ائمۃ  
علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتك یا الرحمن الرحیم، امین بارب

العلمين۔ الحمد لله اولاً وآخر اظاہرًا وباطناً باقى والسلام على من اتبع الھدى والتزمر  
متابعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اے برادر یاد دانست کہ جائز نیست اخذ طریق الی اشد تعالیٰ مگر از شیخ کامل مکمل زیرا  
کہ ناقص صاحب ہوا است و آنچہ مشویب ہوا است اثر نکے کند و اگر اثر کند اعانت بر ہوا  
نماید پس حاصل ہے کند ظلمت بر ظلمت و ایضًا ناقص تمیز نمی کند میاں طریق موصلہ حق بسحانہ  
وغیر موصلہ با وسیع بسحانہ چہ او غیر واصل است و فنا و بقاء ہرگز دست نہ دادہ است و تمیز نمی کند  
میاں استعداد مختلف طالبیاں و چوں تمیز میاں سلوک و حذبہ نکند بیار باشد کہ استعداد  
طالب مناسب بطریقہ جذبہ بود وغیر مناسب بطریق سلوک باشد و ناقص جہتہ عدم تمیز  
میاں طریق واستعدادات طریق سلوک امر فرماید و مگر اہ کند اور امثل خود۔ شیخ کامل و مکمل  
چوں ارادہ تربیت و تسلیک کند لازم است کہ اول ازالہ نماید آنچہ باوازن ناقص رسید  
است و اصلاح آنچہ بیب آں فاسد گردیدہ است بعد ازاں بذریعہ کہ مناسب  
استعداد او باشد انداز دفعتیت نباتاً حسناتاً مثلاً کیلہ طیبۃ کشیر لطیبۃ آصلہ  
ثابت فی الارض و فرعہ فی السماء فصحبته کیمیت احمد و نظر کاد و اعد و کلامہ  
شفاء و ماد و نہ آخر طفت القناد۔ شیخ کامل کہ بعد از فنا و بقاء و رجوع بر تکمیل ناقصان استعداد  
مرید می شناسد پس معاملہ مناسب استعداد او در کار می دارد و اگر استعداد او بسیب  
ملاقات ناقص فاسد شدہ باشد پس معاملہ حسب استعداد او کند ما اندر طبیب حاذق،  
او لا جمی خود در تشخیص مرض صرف کند بعد ازاں دوا و دہر و اگر قابلیت ازالہ مرض از طبیب  
ناقص ضائع شدہ او لامعالجه ازالہ اثر دوا۔ ناقص کند بعد ازاں توجہ بازالہ مرض نماید  
فصحیۃ الشیخۃ الناقص الذی ماتمراصرہ بالسلوك و الجذبۃ سیم قاتل والا نایۃ الیہ  
مرض مُهلک تضییع لاستعدادہ الرفیع۔ پس تکمیل جزاً شیخ کامل مکمل صورت نمی گیرد  
پس اخذ طریق الی اشد تعالیٰ از ناقص جائز نیست و نہ از مقلدہ باپائے کاملین و مکملین کہ ...  
بمسکن صوفیہ علیہ سلوک نہ نمودہ باشد و بمبلغ ایشان واصل نہ باشد چہ ثابت ارادہ  
بجز تعلیم و تعلم ووصول درجہ تکمیل صورت نمی گیرد در وحیزے ازاں نیست۔ و طریق افادہ استفادہ  
مبنی بر مناسبت طریقین است و مبتدی را در ابتداء مناسبت بجناب حق بسحانہ نیست  
پس لابدی شد است از برخ شکر و آشیخ کامل و مکمل است کہ در مرتبہ عدالت نزول نمودہ

است و مدار طرق مشائخ بر صحبت است نه بقیل و قال چه آن مرید بطال است در طلب  
و آجاهانه بعض کمل با هم جذبه برای تکمیل نیست بلکه جست رفع غفت شائع است در  
خلق و کل چون غفت دارد م عدم توجہ ایشان بخالق الخلق و عبادات دیدند از رفته  
شفقت بعض اهل جذبه برای تلقین ایشان ما مورساز نمی‌پس تلقین مردم می‌کنند و  
نوع حال در صحبت او بایشان ساری می‌گردد فتنیه‌ها عن نوع الغفلة و ان لم  
یحصل لهدت الکمال و یکم چنین اجازت ایشان بعض بسته باشد که اهل جذبه نباشد  
چه اگر چه حظ از انوار باطنی ندارد اما مردم بوسیه منتفع می‌گردند مثل حقیق از آتش که مودع  
در دو است نوع منهنجی گرد و مردم با خراج آن از و منتفع می‌گردند پس اجازت و تأثیر مطلق  
علام است کمال نیست بلکه بودن علامت برای کمال بعد از جمیع جست تکمیل ناقصان  
است و تأثیر از تکمیل ناقص مجاز البته صاحب جذبه باشد زیرا که در تلقین نیز نقصان است  
صاحب دولتی که صحبت او کافی است و نظر او شفافی آن است که بیت او علی الدام  
بخدمت قوی صورت گرفته باشد و ظاهر او باطن او را شاغل نباشد و نه بر عکس چه اول  
ست ایشان نیست و ثانی مغلوب الحال است و صاحب کمال و مرتبه تکمیل مفوض بثالث  
است که در مقام عرالت نزول یافته بیکم مرتبه دعوت خلق است و نازل درین کامل  
مکمل است و در حدیث است ان هندا العلم دین فانظر واعمن تأخذ و دین کفر  
ایشان است با پچه گفته ایم. و ایں مرتبه در اصطلاح ایشان مسمی بمرتبه قلب است.  
استفاده و افاده با ایں مرتبه مربوط است و تأثیر و تأثر باک رتبه منوط باشان احکام شرعیه  
است و از جهار از امور منهجه در ایں جا صورت می‌گردد اگر ایں چنین صاحب دولت بهم رسید  
صحبت او بکبریت احترام است ۵

صحبت روشن ضمیر ای کورد را بینا کنند

اختلال خشم عینک را حروف آموز کرد

و چون ایں چنین صاحب دولتی که صحبت او را شاید بدست آید مرید را باید که رشته اختیان  
بدو سپار و خود را مابین پریه مثل میست بے اختیار شمارد و مثل معامله صحابه رضوان اللہ علیہ  
اجمیعین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با و در کار وار و چه او صحبت معنیان ناسب مناسب برحق  
و خلیفه مطلق سرد فتران بیان است علیه وعلی آله و علیهم الصلوۃ والسلامات پس با و شیوه صدقیق

پیش گیرد و خرق عادات ازو طلب نه نماید و در حضور او سخن بلند نگوید و در جانب او پاره داران نکند و کمال خود را در رضا او داند و از قے دیگر که راه بترند آن دو پائے بر مصلحه او و جائے او نه نهد و در همه حال رابطه قلبی که راه اخذ فیوضات است پیوسته دارد و در غیبت و حضور فدار او باشد و نام بجز ادب به زبان نرا نمود و در هر وقت از قے هر اس ای باشد و هر واقعه که بر دست داشت نماید از و پیو شد و هر چه در واقعات و مبشرات به بیند آگر چه از شیخ دیگر باشد از پیر خود داند چه برای از مائش مریدان لطیفه پیران بقدرت ایزدی بصورت شخص برایشان ظاهر می گرد و برای امتحان شان چیزی که گوید از نفع و ضرر باید که باعتقاد حجازم از پیر خود داند و غیر ذلک در امور دیگر.

## مکتوب شانزدهم بنام مولوی شیر محمد کلاچوی که مجاہضرت بو نور بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اطلع في ذلك الازل شمس النبوة المحمدية و اشترق من افق اسرار الرسالة مظهر تجليات الاحمدية صلى الله عليه وسلم .

اخوی اعزی ارشدی مولوی شیر محمد صاحب سلمه اشتراعی فی الدین والدنيا و بجعله الله تعالى عاشقاً و محبّاً لذاته - از فقیر حیر لاشت دوست محمد که مشهور سحاجی است کان اشتراعی عوضاً عن کلشی - بعد از سلام که سنت خیر الانام است مشهود بضمیر منیر می گرداند - الحمد لله رب العالمین که احوال ایں نقیر مبعدهم جمیع درویشان تاتاریخ هفت ماه زیست اول مقرون بحمد و مشکر است و المسئول من الله تعالیٰ لاسلامتکم و عائیشتم و شبا تکم علی الشریعه والطريقة والحقيقة ویرحمهم اللہ عبید قال آمینا : اے برادر بزرگ خود مصروف بدست که حق بجانه و دوام توجہ الی اللہ عزیز شانه باید باشت تایک لحظه و لم یغفلت از حناب قدس او نزد که درین راه ناگزیر طالبان حق جل و علام است و در اشاعت نسبت شریفه بزرگان سعی بلیغ مری دارند که زبان قرب قیامت واوان فتن است و ایں راعین مرضی حق رانند می احباب عباد ادله الی الله من حبیب الله الی عباده - و من احیی سنتی بعد ما امیت فله اجر ما شهادة شهیده باشید و شرط الاجازه ترویج الطريقة الصوفية والاستقامة على الشرعية المصطفوية على صاحبها الصلوة والتسليميات ظاهرًا

مکه یعنی در حق خود نه مطلقاً ॥ عطا محمد عفی عنہ

و باطننا که بقدرت ذرّة حتی المقدور از حدود شرعاً صلوات خمس را اول وقت بجماعت گذارند و هر ساعت بذکر و مراقبه مشغول بودن و قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام و قلت الاختلاط مع الانام کردن و به توبه و صبر و توکل و قناعت ذریه دشکرد خوف و سیلهم در رضا موصوف بودن و کشف و کرامات و خوارق عادات مثل عوام انسان، در نظر نیاوردن و از خود و ماسوانا امید بودن و فقر و فاقه راهنمایی دیدن و طبع در مال مرپدان وغیره نیاوردن و نظر بقبوں و روز خلق نه کردن و از غنی و اهل غنی محترز بودن و از غیبت و نهاد خلق مجتنب بودن و با مردم مضائقه و معارضه نکردن و از ذلات اغماض نمودن و از شناسنی شیطان تاریخت مردن نایین بودن و خود را ز جمیع مخلوقات حقیر داشتن و لائمه دیدن دور طلب روزی و رزق مشوش نشدن که رزق از حق تعالی مقدر و مقرر است برای مخلوقات و علم و عمل و افسونات و تماراث مثل عوام انسان دلیل ای ای علیه عمل و سیله دنیا نسازند و سعادت دینی و دینیوی در علم و عمل است اذ اکان خالصاً شریعت تعالی و موافق المتابعة نبینا محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام قول او فعل او اعتقاد او اگر کسے عالم باشد با قول و افعال و اعتقاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و عمل باک نه کرد عالم نیست چنانچه در حدیث شریف است عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون الموع عالمًا حتی یکون بعلمه عاملًا۔

والسلام ۱۲

## مکتوب ہند کم بنام ملا قطب الدین اخوندزادہ بسم اللہ الرحمن الرحيم ط

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد - اخوي اعزى ارشدی ملا قطب الدين اخوندزاده صاحب سلمه اللہ الولی الواہب و اوصله اللہ تعالیٰ الى اقصی المراتب - از جانش فقیر حقیر لاشتے درست محمد کے شہور سحاجی است کان اللہ عزوجلی عوضاً عن کل شئی - بعد از سلام مستون ودعوات ترقیات مشحون مطالعہ نمایند اللہ الحمد والمنة که احوالات و گزارشات فقرائی ایں جائے قرین حمد و مبارکہ دی است و المسئول من اللہ سبحانہ سلامتکم و عافیتکم و شباتکم علی الشریعته والطريقة والحقيقة فانهها فوق الکرامۃ ویرحمم اللہ عبیدا قال آمينا - المرام آئکو مکتوب مرغوب که ابلاغ داشته بودند رسید من درجه اش بوضوح انجامید - جزء اکم اللہ تعالیٰ عن آخر الجواب

دیگر آنکے لئے عزیز دنیا جائے غور و آزمائش است نہ شہرستان سرور و آسایش اپس خردمند و دانا آن است که بعد از نماز نجگانه مفروضہ جماعت مسنونہ باول وقت ستحبہ بگذار دوالفاس مستعارہ خود را بند کر حق جل شانہ دارند که فلاح دوہیانی دفعہ لاح جاودانی منحصر دریں کار است و ہم تمامی انبیاء علیہم السلام و اولیا کرام علیهم الرحمۃ سرمدا و ابد اشتغال بلا امتناع بذکر الشدو لا الہ الا اللہ کہ اسم ذات و نقی و اثبات است و زیدہ تایک لحظہ دلمجہ بے یاد حق جل شانہ برداشان نہ گذشتہ و انقطاع از مسوی اللہ بکل نموده و ہمگی اوقات خود متوجه جانب قدس بودند چنانچہ قادر لایزاں در کلام خود بہ پیغمبر اصلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرموده و اذکُر اسْمَهُ تِلْكَ یعنی یاد کن پر در دگار خود را بر سبیل در وام در هر وقت خواه در روز و خواه در شب و خواه در عمل تابحذیک آں حضور را م پذیرید که بیچ شغل و عمل از یاد حق باز نماند و اگر خوف آں باشد که لبیب شغلے و عملے از ذکر حق باز خواہم ماند پس آں شغل از خود در کن و تبتل و التَّعْصِيَةِ تَمْتَيِّلًا یعنی منقطع شواز ہر عملے کہ ترا از یاد حق باز دار دیسو پر در دگار خود بیاد کر دن۔

چرا کہ روز قیامت بیچ چیز خلاصی نیست مگر بدیے کہ از گرفتاری غیر صحیح و سالم باشد چنانچہ حق سچانہ فرموده در کلام مجید خود یوْمَ الْيَقْنَعَ مَالٌ وَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَكِينٍ۔ پس بر تابع ان محمد صطفی اصلی اللہ علیہ وسلم واجب و لازم که متابعت اوصیل اشہد علیہ وسلم در اقوال و افعال یعنی ظاہر و باطن بجاں پذیرند و در وام ذکر الشدو و انقطاع از مسوی اللہ پیش خود دارند۔ دیگر لئے برادر یاد کہ داکم خود را محبوس در یاد حق جل شانہ دار تادل تو از جمیع عوائق و علاقت ماسوی اللہ فارغ شود پس بہم امور دنیوی دینی تڑا اوكفایت خواہ کر د۔ قل اللہ دو بس و مساواه عیش و ہوس فانقطع علیہ النفس کاراں است غیر ایں تیچ باتی و السلام۔

محروم بتائیخ دواز دیگر جمادی الاول ۲۴۲ للہ ہجری المقدس۔

## مکتوب ہر دیگر بنا مخلیفہ ملا امام اشہر صاحب بہراتی

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد للہ و کفی دسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد انھی اعزی ارثہ ملا امام اشہد اخوندزادہ صاحب سلمہ اشہر عن جمیع الحوادث والنوائب۔ از جانب فقیر حقیر لاشے دوست محمد

که مشهور بجایی است کان اشتر لر عوضاً عن کل شی بعد از سلام مسنون و دعوات ترقیات دارین مشخون مطابعه نماینده الحمد شد و المنشة که احوال نقیر عون عنایت قادر تدیر عزیز شانه قرین محمد و حامد ایزدی است جل جده و المسئول من اللہ تعالیٰ سبحانہ سلامتکم و عافیتکم و شباتکم علی الشریعۃ المصطفویۃ علی صاحبها الصلوۃ والسلام المرام آنکه امسال بتاریخ هژدهم ماه شعبان المعظم از سن هفت و مائتین و سبعادین سیع از استماع خبر داشت و کلفت اثر انتقال سالار قافله اهل اللہ پیشوای در پیر طائفة عرفان غوث زبان قطب دو راه مولانا و سیدنا و مرشدنا حضرت صاحب قبله و کعبه قلبی و روحي فداه و قدسی اللہ تعالیٰ بسره الاقدس و نور اللہ تعالیٰ مرقدہ الشریف آنقدر غم و الم و پریش اتفاقی خسته خاطری روداره که از تحریر قلم بریده فهم و از تقریر پسان قلت بیان پیرین است غرض اینکه تمامی جهان بلکه زمین و آسمان جرسیم ایں ناتوان تیره و تاریک گردیده پس ازان جهت که هر زدی روح را بهیں شاهراه در پیش است بصیر و اصطبار پرداختم و رضا بقضای پیر در دگار جلن شانه ورزیدم که در چنین حادثه جان و داقعه غم و الم افزایا چاره بجز صبر و رضا بقضای پیر در دگار جلن مجده ندیدم و پیوسته روح پر فتوح آن قبله و کعبه را بردار اللہ تعالیٰ مضجعه بدعاوات مغفرت آیات یاد می نمایم و کلمات ترجیح که انا دل و انا الیه راجعون است می گوییم - اے بزرگ ایں ہم نعم ظاہری و باطنی که بایں سکین خاطر خنیں رسیده است بطفیل در بکت آن عالی حضرت غوث مژده قدر سنا اللہ بسره الاقدس و نور اللہ تعالیٰ مضجعه الشریف رسیده آند پس شماره نیز باید که سهواره تا صین حیات خود روح پر فتوح حضرت صاحب قبله و کعبه را نور اللہ تعالیٰ مرقدہ الشریف و افاض اللہ علینا فیوضاتہ لعیمهم و برکاتہ ایمهم بدعاوات مغفرت آیات یاد و شاد می نموده باشند که سعادت کوئی و دولت دارین منوط و مربوط بدستی دوستان خدا است جل جلاله و عالم نواله و هزار پرالوار در مدینه منوره علی صاحبها الصلوۃ والسلام از طرف پار قبة حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ در جست البقیع واقع شده اندر و تاریخ وصال آن جانب فیض مآب دوم ماه ربیع الاول هشتاد ساعت روزه شنبه است اذسن مسطور ٹانیا آنکه لازم که آن برادر از گذا وقت بیرول شوند و کار و بار صلح و صلاحیت او شان باهیل دنیا گذارند پس اگر امکان آمدن بایں طرف شده باشد خانه خود بیک جائے گوشہ که از میان خوشیه او شان بیرول هاشد گذارند و خود روانه ایں صوب شوند تا ملاقات بایک دیگر واقع گردد و اگر امکان آمدن بایں طرف بسبب شور و شر نباشد پس در خانه خود بکاره باین

خویش که یادِ اول تعالیٰ است جل شانہ مشغول بوده باشدند و ایں نقیر رانیز به دعائے حُسن خاتمه  
یاد و شاد می نموده باشدند که اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمه بایکان روزی کنار بالنبی و آلہ الامجاد  
و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ الجمعین. والسلام خیر الختام ۱۲

## مکتوب نُور و ہم بہ مُلّا میر واعظ صاحب سَخْون زاده

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد انخواي اعزى ارشدی ملامیر اعظم صاحب  
اخوندزاده سلمة اللہ تعالیٰ - از جانب نقیر حقیر لاشے دوست محمد که مشهور بـ حاجی است کان  
الله عوضاً عن كل شيء - پس از سلام مسنون ودعوات ترقیات دارین مشخون مطالعه نمایند -  
الحمد لله احوال ایں جائے بفضل وکرم الہی عز شانہ قریں حمد و محامد ایزدی است جل شانہ  
والمسئول من اللہ سب صحنه سلامتکم و عافیتکم و شاشکم علی الشرعیۃ المرضیۃ علی صاحبها الصلوۃ و  
السلام - المرام آنکه اے برادر بعد از تصحیح عقائد پر و فوی کتب کلامیہ اہل سنت و جماعت  
شکر اللہ تعالیٰ سعیم و بعد از اتیان احکام شرعیہ فقهیہ از فرض و واجب و مستحب و  
مستحب و مند و بحرام و حلال و حلال و حرام و مکروه و مشتبه لازم است که او قات عزیزہ خود را -  
بطاعات و عبادات ظاہری و باطنی معمور دارند و خود را در تهدیب قلب و تزکیہ نفس سر  
گرم دارند پھر اکہ مقصود اصلی از اعمال شرعیہ داحوال طریقہ و حقیقتہ پاکی نفس و صفائی  
دل است تا نفس پاک نشود و دل سلامتی پیدا نکندا یمان حقیقی که خلاصہ او وابستہ بآن  
است حاصل نشود - پس سلامتی دل وقتے صورت بند که غیر اذ تعالیٰ اصلادر دل خطور  
نکند اگر فرضاً هزار سال گزر دغیر رادر دل گزرے نباشد از برائے آنکه ایں زمان دل را  
فراموشی ماسوی بتمام رحمانی حاصل شده اگر بتکلف بیا دش دہند یا ذمیا یا در ایں حالت را تعییر لفناه  
نموده و قدم اول است دریں راه - اے برادر طالب حق جل و علاشانہ چنان جمد و سعی نمود  
که خود را در ہر نفس سب صحنه حاضر بیند و ایم باستے غیر از حق صحنه نماند و مر سیدن و متحقق  
شدن پایں اوج کہ شہود و حضورش باحق صحنه است بوجھے باشد که بکلی از خواست  
و پائست ایں عالم و آن عالم تی گردد و حقیقتہ باطن از شواغل کونیہ و متذکرات فانیہ خلاصی  
یابد و ایں مرتبہ علیاً درجہ قصوی بے آن میسر نیست کہ پاسبانی انفاس خود بوجھے نموده کہ

غیر ارتعالیہ را در آگ خانہ جوالان گاہی ہے نباشد و جمیعت باطنی و حضورہ دائمی ملکہ گردانے بے برادر  
دریں او ان آخرین ذرمان پسین بعضی اشخاص ملوك ناکرده و نشیب و فراز ایں راہ ندیدہ و  
فناہ و بقا مصطلحہ ایں قوم حاصل نہ احتہ بمحبرد پیروزی دگی و صاحب زادگی بمسند ارشاد مے  
نشینند و برائے حصول جاہ دنیویہ و حظام فائیہ لافت و شافت پسیں عوام الناس اذکرات  
و خرق عادات و کشفیات مے نہ نہ دیدام ہست خود را در صرف و جوہ الناس مبتدول مصروف  
مے دار نہ دا ز سخنان بیووہ و غیبت و افترا و دروغ گفتون پر سینرخی نہایند و خود را قطب وقت  
و متصرف و اوار مے نہایند۔ الغرض ہمہ وقت ستائش خود و نقص غیر مے نہایند و بہ بزرگی امام  
و احمد و فخر و علوی مے کنند و حال انکہ بُراۓ دین وردنگان راہ یقین از هر طریقہ کہ باشد، خواہ  
نقشبندیہ دخواہ قادریہ و چشتیہ و سہروردیہ و قلندریہ و کبرویہ و مداریہ و شطاریہ وغیر اینہا  
و از هر مذهب کہ باشد حنفی مذهب باشد یا مالکی یا شافعی یا حنبلی ہمہ متفق اند بڑیں کہ  
خوارق عادات و تصرفات و کشفیات را ز مقاصد ایں راہ نہی شمرند چراکہ برابر رفتون کا  
ماہیان است و بہ ہوا پریدن وظیفہ مرغاب و از غیب خبردادن شیوه کاہناء و دریکیا عت  
از مشرق تامغرب رفتون کا رسیطان است ایں ہمہ ہیچ کاریت کرامت و بزرگی نہ  
بزرگان دین آن است کہ ظاہر بر متابعت سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم آزادستہ داردو  
باطن بحضور حضرت حق جل و علام مستغرق باشد دوں از محبت غیر خالی یا بردافعال و  
صفات کلی و جزی ازو عاریت داند و در خود بجز شر و منقصت چیزے دیگر نہ ہیں

کاراں است غیر ایں ہمہ ہیچ

پس ساک را اگر ارتعالی اجل مشانہ بر اسرار خفیہ اطلاع دہند و بر تصرفات قدرت  
خشند و بر واقعات ما ضیہ و مستقبلہ اعلام فرمائند باید کہ حتی الوع در اخفا۔ آن ہا کو شد  
نہ آنکہ بفرد شد۔ خوش گفت بزرگے چنانچہ فرضیہ است بر پیغمبر اعظم محبوبات ہم ہیں  
فراغیہ است بر اولیاء اللہ کشمکش کرامات۔ و ہم بزرگے فرمودہ عقوبة الانبیاء حبس الوجی  
و عقوبة الاولیاء اظهار المکرامات و عقوبة المؤمنین التقصیر فی الطاعات۔ و مناسب ایں  
حال بزرگے غزل فرمودہ:-

## غزل

تمہر تو دیدیم ز دست ات گز شتیم از جملہ صفات از پئے آن ات گز شتیم

در خلوت تاریک یا اضات کشیدم  
درینه کم که اینها همه خواب است و خیال  
مردانه از این خواب و خیالات گذشتیم  
با مسخر از کشف و کرامات چه گوئی  
چوں ماز سے کشف و کرامات گذشتیم  
نوش پاکش کنیں جمله کمالات گذشتیم  
این ہا بحقیقت ہمہ آفات طریقہ  
ما در طلب دوست ز آفات گذشتیم  
ما از پسکے نور کے کہ بود مشرق انوار

از مغرب او کوب مشکلات گذشتیم  
حضرت خواجه باقی با شد فرموده که بمتو جهان الی الش کشف گوئی آیع در کازمیسته. طاک  
خدار اعتقد درست و رعایت احکام شرعیه و اخلاص تمام و توجه دائم بجناب حق بسیار و تعالی  
بزرگ ترین دولت است پس رونده ایں راه را باید که آپنکه در راه رونمایید در آفاق و افس مشهود  
و مکشوف گرد و بمهدر داخل دائره ماسوی اند بلکه لانفی پایین موردا و تعالی شاند راما و رائی حیطه و کم  
و خیال پایید جست. و اکابر ان نقشبندیه بر واقعات و کشفیات و خرق عادات اعتبارے نہ نہاده  
اند. لہذا دوام حضور ادولت کبست کسر دانسته اند. از نجای است که سیان ماسوی در حق ایشان دامی  
است. شیخ بحیی مُنیری قدس سره فرموده که در عالم بست پرستی بسیار است و بُرت عارفان گرفت  
است. اگر با کرامت آرام پذیرند محب شوند و اگر با کرامت تبری کنند و اور امقصود ندانند و صل  
شویند زیرا که صحت ولایت متحق است بشرط اعراض از غیر دوست. پس پرسا لکے که بکرامت  
اقبال کرد و ایں معنی مقرر قوم است که ولایت با اعراض از دوست و اقبال با غیر هرگز جمع نشود  
من شغلک عن الش فو صنمک. چوں خلق قوت آدمی از خاک است باید که تابع اصل باشد و  
غدر و خود بینی نکند و خود علویه بزرگان گذشتہ نسانه ند بلکه طریقہ عجز و نیاز و شکستگی دخاکسازی از  
دوست ند بند و خود را از نہمه عالم کنند و بر تر دانند و بھیش خائف و ترمان و لرزان باشند  
و توفیق سعادت داکم از جناب حضرت احمدیت در خواہند بود تابوسیله خاکساری و ذریعه انکساری  
قبول درگاه الی گردند و دریے از در را نئے سعادت کی بیند په در میان بند و خدا آیع را ہے نزدیک تر  
از راه عجز و نیاز نیست و آیع جوابے محکم تر از خود بینی نیست. حضرت خواجه خواجگان پیر پیران شاه  
نقشبند قدس سره فرموده اگر ولی درستان در آید و از هر برگے آواز برآید یادی دل الش. باید که ظاہرو  
باطن اور ایاں صد آیع التفاتے نباشد بلکہ هر لحظه و لمحه اور بندگی و تصرع زیادہ تر گردد. و در

مکتوپات قدسی آیات محبوب بسیاری مجدد و منور الف ثانی از جلد اول آندرہ است در مکتب  
دو صد و پیش و دو سیم بخواجہ محمد اشرف کابلی صدر یافته۔ بزرگے فرموده است که مرید صادق  
آن است که مدت بیت سال کاتب دست چپ او چیزی نیا بد که بنویسد و این فقیر  
پر تقصیر بذوق و وجدان در حق خود یا یکم که کاتب دست راست معلوم نیست که در بیت  
سال حسنہ بیا بد که در صحیفہ عمل ہائے من نویسد۔ خدا رانما است جل صلطان که این سخن،  
بتکلف نمی گویم دایضاً بذوق می یا یکم که کافر فرنگ از من بر ایت بهتر است۔ و اگر بھت  
آں پرسند از جواب عاجز نیم۔ دایضاً بطرق ذوق خود را غرق گناہی می دانم و حسنا تے که  
بعمل می آیند کاتب دست چپ خود را بکتابت نمودن آں سُزادرمی دانم۔ و کاتب دست  
چپ من ہمیشہ در کار است و کاتب دست راست من معطل و بے کار و صحیفہ دست  
راست راخالی و سفید می دانم و صحیفہ دست چپ را پُر و سیاه می بنیم۔ امید جزاً و تعالیٰ  
نذر ام و دست ایز غیر آمر شر او تعالیٰ نه۔ دعائے اللہم مغفرتک او سع من ذنبی و  
رحمتک ارجی عندي من عملی موافق حال من است عجائب کار و بار است فیوض واردا  
راقوت رہنده ایں کوتاہ بینی می نمایم و ایں عیب بینی راقوت می دهم بجائے عجب منقصت  
می افزاید و در جائے بلند نمودن راه بتواضع و فروتنی می کشا یکم و در آن واحد یکم بجمالات لایت  
مشرف و یکم بعیب متصف ہر چند بالاتر می ردم پایاں تر خود رامی بنیم بلکہ ہمان بالاتر فتن سبب  
پایاں تر دیده شده است ظفار، آں را قبول و باور دارندیانہ و اگر سر اک رامعلوم کند شاید  
باور دارند۔ سوال، وجود احمد المتناویین سبب وجود متنافی دیگر چرا باشد۔ جواب است  
جمع متنافیین مشروط با تحدی محل است در ماحن فیہ متعدد است۔ بالاروندہ لطائف هم است  
از این کامل۔ و فرد آیندہ از عالم خلق او لطائف عالم امر ہر چند بالاتر وند بے مناسبت  
تر می گردد بعالم خلق و ہمان بے مناسبتی سبب پایاں تر آمدن عالم خلق باشد۔ و عالم خلق  
ہر چند فروت می آید ساکر را بے حلاوت تر می سازد و دیدن بیہما لا زیادہ تر می گردد از یخی  
است که منتهیاں ہر جوع آرزوئے آں لذت و حلاوت دارند که در ابتدائے ایشان میسر شد  
بود و در انتها از دست رفتہ و بے مزگی بجائے آں نشسته و یکم ازیں جا است که کافر فرنگ را

---

که یعنی از نفس خود که از اختلاط لطائف عالم امر علیحدہ مانده باشد برخلاف کافر فرنگ کنفس او مختلط  
لطائف باشد فاهم۔ حررہ عطا محمد عفی عنہ

عارف از خود بہتر میے داند برائے آنکه در ہر کافر فورانیتے ہست بواسطہ امتیاج عالم امر اور باعالم خلق او در عارف ایں امتیاج بر طرف شدہ عالم خلق تھا کہ انا عارف بر وے می افتاد جدا ماندہ اس کے سراسر پر از ظلمت و کدورت است و ہر چند لطائف عالم امر فرود مے آیند باعالم خلق اختلاط نہ اند و آمیز شے پیدائی کنند چنانکہ در ابتداء مکتبے اشاد کر دیم و مکتوبے کہ بدست اخوی خواجہ محمد طاہ فرستادہ بود رسمید۔ حصول داشتگی کہ مبینی بر مناسبت تامہ است در زمان غیبت از نعمت ہائے بزرگ شکر ندو تاموانع بر طرف شوند اکتفا با قرب قلوب نہایند و بار جو داں قرب است خداش قرب ابدان را ز دست نہ ہند کہ تمامی نعمت مربوط بایں قرب است اویس قرنی با وجود قرب قلبی چند اس قرب ابدان نداشت باری آں جماعت کہ قرب ابدان داشتند نرسد لائذ انفقہ کردن کرہ طلاقے او بہرہ شعیر ایشان کہ نفقہ کنند نرسد و برابری نکند فلا تعالیٰ بالصحیحہ شیئا کائنا مکان۔

پرانکہ اے برا در علامت ولی دماغی اجمالاً بیان می نہایم تا فرق ولی دماغی ولاست نیک مہرین شود۔ علامت ولی آن است کہ اول اب راعتقاد اہل سنت و جماعت معتقد راسخ باشد و از اعتقاد جمیع فرق اہل قبلہ چنانچہ شیعہ دوہابیہ و رافضیہ وغیرہ منتبری باشد و برداشت شاذہ او شان عمل نسازد۔ دشائیا بر وفق کتب فقیہہ و مذهب حنفیہ یعنی حضرت نعمان بن شاہ است کہ امام المفسرین والمحثین در میں ائمۃ المجتهدین بودہ عامل باشد محدث کو در تبع فرض از فرائض و واجب و مست و محب و مند و ب فتویٰ و قصویٰ و فتویٰ نزد چہار کہ آرٹیگی ظاہر دسیلہ جزویہ آرٹیگی باطن است۔ ثالثاً مقامات عشرہ صوفیہ علیهم الرحمۃ چنانچہ توبہ و انباتہ و زہد و درع و صبر و شکر و توکل و تسلیم درضا اجمالاً یا الفصیلہ حاصل نمودہ باشد و ایضاً صحبت اور اثرے و تاثیرے باشد کہ صحبت دنیا و اہل دنیا بر دل کم شینان اور سرد شود و غفلت از کم صحبتان دے بر طرف گرد دہماں ولی مذکور خود را از جمیع مخلوقات کم تر و بادر داند۔ نہ آنکہ شناسے خود بز پان خود کنند و با خلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ از تو ارضع علم و تحمل دبر دباری و موت و فتوت و سخاوت و تازہ روی دنیک فلکی درستی و عجز نیاز و کم آزاری و پر سیزگاری از حرام و مشتبہ و مگر وہ موصوف باشد۔ الغرض باتیان تمامی اعمال خیر آر استہ باشد و در جمیع امور با خلاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق بود پس صحبت ایں چنیں شخص نعمتے است عظیمی و درستے است کہ کے۔ و اگر کسے خود را در مسندری خی و مرشدی

گرفته باشد و عمل نه بر و فی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم است و بخلیه شریعت غرائیت داشت و دروغ و سوگند خوردن بخلاف از اخلاق ذمیه اجتناب نوزد زنمار الف نهاده از صحبت او دور پاکش بلکه در آن شهر میباشد مبادا بمروایات بد و میلانے پیدید آید و خل در کارخانه عظیم اندازد که اقتدار را شاید او دزدیست پنهان و دام شیطان نهاده است پس پرچند که ازوئے انواع خوارق عادات بینی و ازوئے کشفیات و اسرار است یا بی فرمان من صحبت اکثر ماتفر من الاسد ۵

چوں بے الہیں آدم روئے ہست پس پردستے نبایید اددست  
دست ناقص دست شیطانست دیو زانکہ اندر دام تکلیف است وریو  
صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحیہ اجمعین ۱۲

## مکتوب بستیم ایضاً بنا ملامیر اعظم صاحب موصوف الصدر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین صطفی - اما بعد فالسلام المسنون ودعوات ترقیات المشون من الفقیر الحقیر دوست محمد المشهور بالحاجی کان اللہ عوضا عن کل شی علی اخی الشریف ملامیر اعظم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ -

إن أحوال هذل المكان من كل الوجوه قرین بن محمد الله سبحانه فالمسئول من الله  
سلامتكم وعافيةكم واستقامتم على الشريعة المصطفوية على صاحبها الصلة  
والسلام -

فأعلم يا أخي إن لأهل المجاهدة والمحاسبة وأول العزم عشر خصال جربوها  
لأنفسهم فان أقاموها وأحكموها باذن الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفية -  
فأقول لها إن لا يخلف العبد بأذنه عز وجل صادقاً ولا كاذباً عامل ولا ساهيَا لانه  
إذا أحکم ذلك من نفسه وعمره لسانه رفعه ذلك إلى أن يترك الحلف ساهيَا و  
عاملأ فإذا اعتاد ذلك فتح أذنه له بما يحسن أمواله لا يعرف منفعته ذلك في قلبه زينة  
في رتبته ورفعه في درجته وقواه في عزمه وفي بصره الثناء عند الإخوان كرامته  
عند الجيران حتى يأتويه من يعرفه ويهابه من يراها -

ثانيها ان يجتنب الكذب هازلاً وجاداً لانه اذا فعل ذلك واحكم من نفسك  
واعتقادك شرح الله به صدراً وصغاره عمله حتى كان لا يعرف الكذب  
فاذ اسمع من غيرك عاب ذلك عليه وعيتبه في نفسك ودعاله بزوال ذلك فكان  
له ثواب ذلك -

والثالثة، ان يجد ران يعد احداً شيئاً ويختلف اياها وهو يقدر عليها الا  
من عن ربِّن او لا يقطع العدة البدنة فانها اقوى لامر واقتصر لظرفيتها لان الخلف  
من الكذب فاذ افعل ذلك فتح له باب السعادة ودرجته الحباء واعطى من دة في  
الصادقين ورفعتها عند الله عزوجل -

والرابعة، يجتنب ان يلعن شيئاً من الخلق او يؤذى ذرة فما فوقها لانها من  
اخلاق الابرار والصادقين ولهم عاقبة حسنة في حفظ الله في الدنيا مع ما يدخله  
له عنده من الدوائر ويستنقذه من مصادر الاهلكة وسلمها من الخلق ويرزقه  
رحمه للعباد والقرب منه عزوجل -

والخامسة، ان يجتنب ان يدع على احد من الخلق وان ظلمه فلا يقطعه بلساً  
ولا يكافيه بفعاله ويحتمل ذلك دنه تباركه وتعالي ولا يكافيه يقول ولا يفعل فان  
هذا للخصال ترفع صاحبها في الدرجات العلي اذا اذاب بها ينال بها منزلة شريفة  
في الدنيا والآخرة والحب والمحبة في قلوب الخلق اجمعين من قريب وبعيد اجابة الدعوة  
والعلو في الخير وتوقير في قلوب المؤمنين

والسادسة، ان لا يقطع الشهادة على احد من اهل القبلة بشره ولا كفر ولا  
نفاق فانه اقرب للرجمة واعلا في الدرجة وهي تمام الامان وابعد من الدخول في علم  
الله سبحانه وتعالي وابعد من مقتله الله واقرب الى رضا الله ورحمته فانه باب  
شرف كريم على الله يورث العبد الرجمة للخلق اجمعين -

والسابعة، ان يجتنب من اتباع النصر النظر والهمة الى شيء من المعااصي ظاهر  
وباطلها ويكتف عنها جوارحه فان ذلك من اسرع الاعمال ثوابها في القلب والجوارح في  
ما عجل الله بها ويرث خراشه من خير الآخرة فتسأله الله تعالى ان يمتن علينا اجمعين بالعمل  
بهذا للصال وان يخرج شهوتنا من قلوبنا -

والثامنة، ان لا يجعل له على احد من الخلق ميئه من نتى صغيراً او كبرة بل يرفع من نتها عن الخلق اجمعين مما يحتاج اليها واستغنى عنها فان ذلك تمام غرارة العبادين وشرف المتقيين وبما يقوى على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ويكون للخلق عند اجمعين منزلة واحدة في الحق سواء فاذا كان كذلك نقله الله تعالى الى الغنى واليقين والثقة به عز وجل ولا يرفع احداً بهوا ولا يكون الناس عند كاف في الحق سواء ويقطع بان هن الباب عز المؤمنين وشرف المتقيين وهي اقرب باب الاخلاص.

والنinthة. ينبي لـه ان يقطع طمعته من الادميين جميعاً لا يطمع نفسه من شيء هما في ايدين هيم فانه العز الاكبر والغناء للخلوص والملك العظيم والفاخر الجليل والتقو كل الشافي الصحيح وهو باب الثقة بـالله عز وجل وهو بـباب من ابواب الزهد وبـباب من احوال الورع ويكمـل نسـكه وهو من علامات المتقـعين الى الله تعالى تبارك وتعالى

الخصلة العاشرة، التواضع لـانه يشـى محل العـابد وتعلـود سـجـته ويـستـكـمل العـزـ والـرفـعةـ عندـ اللهـ وعـنـ الخـلقـ ويـقـدرـ رـعـىـ ماـ يـرـيدـ منـ اـمـرـ الدـنـيـاـ وـالـآخـرـةـ فـهـذـهـ الخـصـلـةـ اـصـلـ الطـاعـاتـ كـلـهـاـ وـفـرـعـهـاـ وـكـلـهـاـ وـبـهـاـ يـكـمـلـ العـبـدـ منـ اـنـ الـصـالـحـينـ الـراـضـينـ منـ اللهـ عـزـ وـجـلـ فـيـ السـرـاءـ وـالـضـرـاءـ دـهـيـ كـمـالـ التـقـوـيـ وـالتـواـضـعـ دـهـوـ انـ لـاـ يـلـقـ العـبـدـ اـحـدـاـ مـنـ النـاسـ لـاـ وـدـاـيـ لـهـ الـفـضـلـ عـلـيـهـ وـيـقـولـ عـسـىـ انـ يـكـونـ عـنـ اللهـ خـيـراـ مـنـيـ وـارـفـعـ درـجـةـ فـاـنـ كـانـ صـغـيرـاـ قـالـ هـذـاـ لـمـ يـعـصـ اللهـ وـاـنـ اـقـلـ عـصـيـتـ فـلـاشـكـ اـنـهـ خـيـرـ مـنـيـ وـاـنـ كـانـ كـبـيرـاـ قـالـ هـذـاـ عـيـدـ اللهـ قـبـلـ وـاـنـ كـانـ عـالـمـاـ قـالـ هـذـاـ اـعـطـيـ مـالـهـ اـبـلـغـ وـنـالـ مـالـهـ اـنـيلـ وـعـلـمـ مـاـ جـهـلـتـ وـاـنـ كـانـ جـاهـلـاـ قـالـ هـذـاـ اـعـصـيـ اللهـ بـجهـلـ وـاـنـ اـعـصـيـتـ بـعـلـمـ وـلـاـ اـدـرـىـ بـمـاـ يـخـلـمـ بـيـ وـاـنـ كـانـ كـافـرـاـ قـالـ لـاـ اـدـرـىـ عـسـىـ انـ يـسـلـمـ هـذـاـ فـيـ خـلـمـ لـهـ بـخـيـرـ الـعـمـلـ وـعـسـىـ انـ اـكـفـرـ اـنـ اـفـيـخـتـمـ لـيـ بـشـرـ الـعـمـلـ وـهـذـاـ بـابـ الشـفـقـةـ وـالـوـصـلـ وـاـوـلـ مـاـ يـصـحـبـ وـاـخـرـ مـاـ يـبـقـىـ عـلـىـ الـعـبـادـ فـاـذـاـ كـانـ العـبـدـ كـذـكـثـ سـلـمـ اللهـ تـعـالـىـ مـنـ الـغـوـائـلـ وـبـلـغـ بـهـ مـنـازـلـ النـصـيـحةـ اللهـ عـزـ وـجـلـ وـكـانـ مـنـ اـصـفـاءـ السـرـجـنـ وـاجـبـاـبـ وـكـانـ مـنـ اـعـدـاءـ اـبـلـيـسـ لـعـنـ اللهـ عـلـىـ وـالـلـهـ وـهـوـ بـابـ الرـحـمةـ وـمـعـ

ذلك يكون قد قطع طريق الكبر وحال العجب ورفض العلم وجانب درجة التعارف  
 لنفسه في الدين والدنيا والآخرة وهو في العبادة وغاية شرف العابدين وسماء  
 الناسكين فلا شيء أفضل منه ومع ذلك يقطع لسانه عن ذكر العالمين فلا يتم له عمل  
 كلامه ويخرج الغل والبغى والكبر من قلبه في جميع أحواله وكان لسانه في السر والعلانية  
 واحداً ومشيطة في السر والعلانية واحدة وكلامه كذلك وخلق عندك في النصيحة  
 بمنزلة واحدة ولا يكون من الناصحين وهو ينكر أحداً من خلق الله عزوجل بسُ  
 ديعيّرة أو يُفعّل أو يُحيّث أن يذكر أحداً عندك بسوء أو يرتاح قلبه إن ذكر أحداً عندك  
 بسوء وهذا آفة العابدين وعَطْبُ النُّسَاكَ وهلاك الزاهدين لأنّ منْ اعانه أدى  
 عزوجل على حفظ لسانه وقلبه برمته . فاعلم يا أخي ذكر في الاحياء قد اتفق للعلماء  
 والحكمة ان لا طريق الى سعادة الآخرة الا ان ينهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات  
 فالإنسان بهذا راجب ذكر في موضوع اخر من كتابه كل من كان او فر عقلأ واعلى  
 منصبأ كان أقل إعجاًبا واعظم اهتماماً لنفسه وأشد الناس حماقةً اقواهم اعتقاداً  
 في عقل نفسه وآثقب الناس عقلأ أشد هم اهتمام لنفسه فالطائفة الصوفية  
 احسن الناس ظنونا برهنهم وهم اسوء الناس ظنونا بانفسهم واشد هم ازراءها  
 لا يرونهما اهلا لشيء من خير ديننا ولا دنيوياً . ونقل من الحديث المحسبي صفة  
 العبوبيه ان لا ترى لنفسك ملكاً وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضرراً ولا نفعاً و  
 قال سلطان العارفين بابن بسطاوي في رحمة الله عليه المعرفة ان تعرف ان  
 حركات الخلق وسكناتها هم بإذن تعالى في يجب الاعتراض عن عين التهمة فهم أربأتك  
 أحداً يسع الظن بالناس طالما العيوهم فاعلم انه خبيث بالباطن وان لك خبيث  
 يترشح منك وانما يرى في غيره من حيث صفتها نفسهم وان العارف الكامل خائف  
 على نفسه في كل لحظة ولحظة وعلى ايمانه وعمله ونسبته بصريح عيوب نفسه  
 لا يتوجه الى عيوب الناس بل يتوجه الى عبادة الله تعالى في كل وقت وحين حتى  
 لا يفرغ من العبادة ظاهراً وباطناً الى الموت هذا احوال كل المشائخ من اهل السنة  
 والجماعة من ائمّة من هبّ كان حذفياً او مالكيّاً او شافعياً او حنبليّاً من ائمّة طرقه كان  
 نقشبندياً او قادرياً او حشتيّاً او سهرورشيّاً او كبرويّاً او مداريّاً او قلنديّاً او شطايرياً

وغير ذلك للمندرين لا آخر أظاهر أرباطنا. وصلنا الله على خير خلقه محمدٌ على الله  
اصحابه اجمعين ۱۲

مكتوب بيت يكيم بجانب پیرستگیر خود حضرت شاه احمد سعید  
صاحب مجدی هلوی ثم المدرنی رحمه شریعت شریعه  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذي ناصره

اما بعد - عرضه اشت کم ترین بندگان وکهترین نیاز مندان روئے سیاه بزفعال بے عمل  
دیے کردار فقیر حقیر لاشے دوست محمد که مشهور حاجی است کان اللہ عوضاً عن کل شئ بجانب  
خواهم ذی المجد والاحترام ذات قدسی صفات معدن اسرار الہی مخزن انوار نامتناہی ہادی  
گراہان بوادی غوایت جامی عاکفان مادی ہدایت غوبی زمان قطب دران ساقی شراب  
اذواق الہی فائض انوار حضور و آگاہی زبدۃ العارفین عمدة الواصیین فاریث الانبیاء والمرسلین  
لمستغنى عن توصیف الواصفین ۵

لا يدرك الواصف المُطْرئ خصائصه  
وان يلک سابقًا كل ما وصفا

حضرت کیم صاحب والامن اقب و قبلتنا و سیلتنا الی اشتعلے المجد حضرت شاه  
احمد سعید صاحب قلبی دروحی فداه لازالت شموس فیوضہ ساطعہ و قیور برکاتہ طالعۃ علینا  
وعلی جمیع المسترشدین الی یوم الدین - بعد اذ ترسیل چھپ سلام کہ سنن سنیتہ نبی خیر  
الانام است علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام بصدق عجز و نیاز و انکسار کہ شیوه علامان خاص  
خاک ساران است بلب ادب آنکہ سرفراز نامہ عنبر شمامہ حضور پیر نور مخدوم زادہ ساعات  
وسادہ جامع کمالات ظاہریہ و حالات باطنیہ حمیدہ خصال نیکو سیر حضرت حافظ مولوی محمد  
منظمه صاحب قدس اشتعل اسرار کم متضمن بر دریافت احوال ایں علام و سائر خادمان  
آل ذات ملکی صفات کے بشرفت اجازت رسیدہ به ترویج طریقہ علیہ مجددیہ قدس اشتعلے  
اسرار ایا یہا مشتعل اند کہ بکمال کرم نوشتہ ارسال داشته اند در روز تھیا اسباب بطرف خراسان  
رسید فرحت بخشید ۶

بوسیدم بر مردیک دیده نهادم  
 بندہ را از اطمینان ایں اسرار بسب عدم پیافت خود اگرچہ سے اسرنگ و عار است لیکن  
 تحریث نعمت اللہ تعالیٰ سُبْحَانَهُ بِحَمْكَمْ آیت شریفہ وَآمَّا بِنِعْمَتِنَا سَرِّتِکَ فَخَلَقَ که بوسیله  
 آثار فیوضات قلب و سینه مبارک آن حضرت قلبی دروحی فدا که باشی مکینه خادمان ،  
 رسیده و اظهار شکر نعمت آن حضرت والا و امثال فرمان واجب الاجابت صاحبزاده  
 عالی شان سرمایه سعادت ابدی خود داشته بیان چیزی از احوال خوش و سائرنامه  
 آن فیاض جهان فقیر سفیر دار عرض می نماید آنچه از احوال پر فعال پرسیده بودند این است  
 که از اول و هله که از آن حضرت شخص گرویده آدم مر از انسانیت گشیده بحیوانیت در آوردن  
 میان خود و حیوانات دیگر فرق نمی کردم . چند مرت ہم بیس قرار خود را مثل سائر حیوانات  
 می دیدم بعد از این از حیوانیت به نباتیت آوردن پس خود را مثل گیاهات و نباتات دیدم .  
 چند مرت ہم بیس حال و منوال بودم . بعد از این از نباتیت بحمدیت آوردن خود را مثل جماد  
 و سنگ دار بے حس و حرکت می دیدم الحال جماد ہمیست تم لاشے محض و معصوم صرف خود  
 را می نیمی محیی و نمیت و مرید علیم و سیمیع و بصیر و محرک و متكلم ہمہ او سُبْحَانَهُ است از وجود خود  
 و ماسوئی نامے و نشانے نبی یا بکم در دل نہ حرکت ذکر مانده و نہ حرارتے و نہ ہمته و نہ توجھے خود  
 بخود است ۵

عشق آمد و سچوں خون شد اندر گوپت      تا ساخت مراثی پُرساخت ندوست  
 اجزاء وجود میں نہیں دوست گرفت      نامے است بر من باقی ہمہ دوست  
 الحجر شد الحال ایں قدر می دانم کہ ببرکت توجہ آن حضرت باسلام حقیقی مشرف شد ام  
 و در معیت واقریبیت و محبت و غیر ذلک من المقامات العالیۃ الحمد دیہ قدس اللہ تعالیٰ ابرار  
 اہالیہما لحاظ تو انکم کرد مگر بہ تکلف و در مراقبہ لاعین لحاظ کردن نہایت خوش می آید . اما در  
 حلقة از برکت توجہ حضرت من قلبی دروحی فدا تاثیرات و فیوضات نہایت بے حساب  
 و بے شمار است ۶

بے لطفِ تو من قسر نتوانم کرد      احسان ترا شمار نتوانم کرد  
 گر بر تن من شود زبان ہر موئی      یک شکر ترا لہزار نتوانم کرد  
 و ذکر احوال بعضے یاران این است :-

(۱) سیادت و نجابت دستگاه حقائق و معارف آگاه سید حیدر شاه صاحب از پوندگان است. عالم جلیل القدر در هنین از نون مهارت تمام دارد. پسند سال کسب طریقه از فقیر نموده شرف اجازت یافته به تعلیم ذکر به طالبان و تدریس علم ظاہری شتغال دارد ۱۲

(۲) ملا اسمور آخوندزاده. فاضل کامل از هر علم همه تمام دارد نزد فقیر آمد کسب طریقه نموده اجازت یافته چند کسان را القار ذکر نموده درین بوزیر اخبار وفات او در دامان رسیده انسانیه و انا لیل راجعون در عالم طرفه مرد بود که یک گوسفند کلاس بکله پاچه و بمقدار آن نان می خورد و بعد از آن چند سیر انگور و دیگر میوه جات بکل می نموده سیر نمی شد معهد ابوضویع شار نماز فجر می خواند. برای امتحان نزد فقیر آمد که اگر مرا باندک چیز سیر گذاشید داخل طریقه شوم در آلا لا. سئه استخوان بزرگ غال خورد و سه نان با مریک دو رکت پیش اورد یک کس دیگر که همراه او بوده نهادم، از طعام چیزی سے باقی بوده که سیر شدند. بهمین سبب راض طریقه شد ۱۲

(۳) مولوی ملامیر باز آخوندزاده پسر ملا اسمور مذکور عالم کامل است در اول و نیز نزد فقیر آمد بیست در طریقه علیه مجددیه قدس اشر تعالی اسرار ایامیها کرد مردن اسواری بوده از ناسوارش منع کردم ممتنع نشد. بعد از سه روز بدل خود از طریقه دست بردار شده خفیه بگیر ساخت. بمحترم درود بخانه خود او را جذبات و واردات و چلیات در گرفت. سال آینده نزد فقیر بمعیه کتب خانه برای سکونت ورزیدن و کسب طریقه نمودن آمد و از کرده خود پیشان شده تو پر نموده مدت سه سال تا ولایت علیا کسب نموده اجازت یافته خانقاہ در ملک خود که مشهور بگرا است بنادره بسیار مردمان و طالبان به نزد او برای کسب طریقه آمد و فیض ہمیز بود. یک دوکس را اجازت طریقت ہم داده اندک که از آنها ہم مردمان بدفع می رساند ۱۲

(۴) خان آخوندزاده که بحوالی غزنی سکونت دارد، از درو چای کے کسب طریقه نموده اجازت از هر دو یافته چون کمال در خود نمی یافت رجوع به فقیر آورده بیویت نمود بعد از چند مدت شرف اجازت یافت به تکمیل طالبان حق جل شانه مشغول است ۱۲

۱۲ در گذشت باریک تر نانی که در علاقه دامان در شرید استعمال می گند ۱۲ عطا محمد

(۵) مولوی محمد جانان آخوندزاده صاحب ملة اللہ شریعہ کے از ساکنان مرغہ است ولد قاضی ملایار محمد آخوندزاده کے از خانوادہ کلان است جامع علوم متداولہ در علم نصوف پے نظیر است اخذ طریقت کردہ با جازت مشرفت شدہ بحمد اللہ سُجّحانہ ربِمِن ببر کات حضرت عالم بسیار از منور گردیدہ صاحب کشف دادرک راحوال عجیبہ مہست و فقیر را دربارہ او مجیبت کثیر و اور ایز ارادت و مودت بے شمار است۔

(۶) مولوی محمد گل آخوندزاده صاحب کے از آباء و اجداد صاحبِ کمال است برائے تحصیل ثبت در ملک قندھار پس فقرار گردش بسیار کردہ روزے بر مزار جد بزرگوار خود کے اکم شرفیش ملا شاہو اخوند راست و از مریدان میان عمر چوکنی والا است رحمہ اللہ تعالیٰ آمدہ، سخاوب دید کہ جدا مجددش اشارہ به فقیر کردند ایں فقیر آمدہ التماس طریقت نموده چوں قلاوہ قضا و درگرد دین خود از طرف میر عالم خاں کے حاکم کلان صدد خراسان است اند اخته بود فقیر ابا آورد داخل طریقت ناشاخت و شرط کردم کہ اگر منصب قضا و ملا را و اگذاری داخل طریقت کنم، بخان مذکورہ رفتہ جواب صاف دادہ پیش فقیر باز آمد داخل طریقہ کردم بعد از چند سال اجازت یافته مریدان گرفتن گرفت۔

(۷) ملا دوران آخوندزادہ فقیہ کے از ساکنان گنڈان است اول بخدمت محمد سعید آخوندزادہ صاحب رفتہ کسب طریقت کردہ باز بہ رخصت پیر خود بطرف ایں فقیر جو ع آوردہ بیعت نمود کسب طریقت کرد اجازت یافته بہ افادہ مردمان اشتغال دارد پ

(۸) ملا راز محمد آخوندزادہ صاحب قندھاری برائے کسب طریقت برعالم بسیار گردیدہ از ہندستان و دھن دخرا سان و دیگر اطراف چوں منفعت نیافتہ بر دست فقیر بیعت نموده کسب طریقت کرد حالات عجیبہ و تاثیرات غریبہ اور احصیل گردید اجازت یافته مخصوص بجانب لذت گردید در آنجا چند روز اقامست نموده چوں سکین یافت روائہ بہ بخار اشند آں جا ہم سکین نیافتد متوجه بلده شریفہ سر قندشدند آں جات و تج طریقت نمودند قبولیت تمام در مردم خاص و عام یافتند را بدترارک دنیا معرض عماسوا بودیا باشنا بخار ابرائے امتحان صلاح و تقوی اور آدمان خفیہ فرستارہ چوں بصلاح و تقوی ادو اتف گردید الحاج ملاقات نمود با جاتہ نرفت برائے خرچ فقرار، ماہیانہ عرض نمود قبولش نہ کردند

گفتند که من از برائے دنیا نیامده ام مخصوص برائے ترجیح دین میں فرستاده حضرت مرشد خود آمدہ ام۔ بعد از چند سال باز نزد فقیر آمدہ چند روز توقف کردہ بطرف سر قند مخصوص شدند۔ در اشمار راه نزدیک غزنی بجوار رحمت حق جل و علا پیوست۔ غفران شد  
تعالیٰ لَهُ

(۱۹) حاجی ملا شہباز آخوندزاده صاحب که از سکنان قریب ابیر است که قریب غزنی است عالم جید بود بیعت بر دست فقیر کردہ چند سال کسب طریقت نموده مشرف با جاگزت گردید چند مردم را القا، انوار ذکر نموده بجوار رحمت الٰی پیوست  
غفران شد تعالیٰ لَهُ

(۲۰) ملا هرادخال آخوندزاده صاحب که از سکنان ژنگ که از حدود خراسان است در علم فقہ مهارئے دارد چند سال کسب طریقت از حضرت میان سیلان صاحب قدس سرہ کردہ چوں فائدہ باطنی در خود نمایم و حجوع به فقیر آور دبیعت و کسب طریقت نمود اشار تھام پیدا کردو اجازت یافته مردمان طالبان از دست فیدا نموده

(۲۱) ملا اسلام آخوند صاحب کا کفر فقیہ که از سکنان اطراف خراسان است بر دست فقیر بیعت نموده بعد از کسب طریقه اجازت یافته مردمان را تعلیم دکرے نمایند۔ سلمہ الشـ تعالیٰ

(۲۲) مولوی محمد عادل صاحب سلمہ الشـ تعالیٰ از سکنان ژنوب است از علماء بیحر صاحب تصانیف اندیساں فقیر بیعت کردہ ابتدا، آمدن او شان بھیں وجہ بود کہ نزد فقیر بیحر چند کسی آمدہ بعد از مرحبا و ملاقات پر پیدم که از کجا آمدی گفتند از طرف ژنوب۔ گفتگم از برائے چہ آمدید، گفتند از برائے مذکورہ و مباحثہ کردن بشما آمدہ ایکم گفتگم مباحثہ در چھ مسئلہ است، گفتند مباحثہ درین است کہ شما مریدان خود روانہ بطرف ژنوب کردہ و آں مردمان علم ندارند و ایں جائز نیست، گفتگم ایا علم شرط طریقت است، گفتند بله، شرط طریقت است، گفتگم نے علم شرط اعمال است نہ شرط فیوضات ربانی و ولایت، گفتند نہ بجز علم روانیست، گفتگم حضرت آدم علیہ السلام از کہ علم کسب کردہ و حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت پیغمبر ما جیب اکرم علیہ السلام و مصلوات و التسلیم یافت اذکر علم آموخته، گفتند از خدائے تعالیٰ آموخته اند، گفتگم آں خداوند تعالیٰ کہ الآن

کما کان است چنانکہ بایں بزرگوار ایم علیہم السلام علم عطا فرموده الحال سهم قادر است که اتباع  
ایشان را نیز از نزد خود علم عطا فرماید بغیر تدریس و علم کتب از پسر بعد از آن چند بزرگان  
اہل حمال که بے تحصیل علوم ظاہریہ بکمال ولایت رسیده ذکر کرد م مثل حضرت خواجہ اویس  
قرنی و حضرت ابوسعید سندي و حضرت خواجہ اصرار قدس اللہ تعالیٰ اسرار سهم از که تعلیم کرده  
اند و شیخ احمد نامقی و شیخ برکه و دیگر شیوخ را قدس اللہ تعالیٰ اسرار سهم ذکر کرد م که بغیر علم ظاہری  
ایشان بکمال درجه ولایت رسیده اند دریں باب گفتگوے بیارشد از اشراق تا نساز  
ظهر در طرق اسلام شسته بودند آخر الامر گفتم اے کاکه محکم بهش مکربته کن که اگر مر الرازم  
کردی خانقاہ خود دیران کرده تلمیذی شمامے کنم و اگر شما ملزم شدی دست بسته پیش  
من استاده خواهی شد - ب مجرد گفتن ایں سخن حاشش دگرگوں شد و حوش در باطن افتاد  
ز پاک درخون کردن و تلفظ نمودن غلطیدن گرفت چنانچه لفظ قلب را کلب می گفت -  
بعد گفت من برای بیعت آمدہ ام و ایں گفتگوئے برای امتحان کردم که شمام علم ہستیه  
یانه - الحال که علم شما معلوم کردم مرافقین ذکر نپرایند فقیر گفت که من لائق ایں سیم نگذاشت  
با ز همچنان بیعت و امتحان مکرر کرد آخر الامر چاره نداشتم داخل طریقه شریفه کردم الحمد للہ  
علی ذکر ایں تصرف نعمت است که از سینه مبارک حضرت صاحب قلبی روحی  
قداده بمن رسیده است - بعد چند سال کسب طریقه نموده شرف اجازت  
یافته مردمان هزار هارا نورانی ساخته صاحب حالات بلند و مقامات از جمله است  
شبته اللہ تعالیٰ پیش

(۱۲) ملا کاکی صاحب پیوندہ از زمان خود گی از مخلسان بوده و بیعت بر  
دست فقیر نموده صاحب حالات عجیب و کشفیات غریب بوده بلک کشف عینی داشت  
آن چنان احوال قوی داشت که در بیان نمی آید - می گفت که در مر مقام هر اجناب رسید  
عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایشان می دهنده و ہرگاه که مراقبه نمی شست خود را به مجلس شریف  
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر می یافت تا حقیقت کعبہ رسیده شرف اجازت  
یافته آخر الامر شریست شهادت نوشید به حظیر قدس آرا مید - نور اللہ تعالیٰ  
مرقد

(۱۳) ملامیاں خال آخوند پوندہ بدرست فقیر بیعت نموده کسب طریقت

کرده شرف اجازت یافت، بحوار محبت‌اللی پیوست طاب اللہ تعالیٰ ثراه صاحب کرامات بودن بان مرغان می فهمید بلکه اجوار و اشجار و هر چیز از جمادات باوشان سخنان می کردند از نوادسال عمر او گذشت. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

(۱۵) ملا عظیم پیوندہ سلمہ اللہ تعالیٰ از قدیم بر دست فقیر بیعت نموده کسب طریقت کرده حالات قویه دارد استغراق بر و چنان غالب که بعد از صلوٰۃعشاء تا نماز فجر در یک مرافقه ششته می ماند ادریک صحیح و کشف احوال قلوب می دارد اجازت از فقیر یافته با ذکار و مرافقات مشغول است چند کسان را بانوار ذکر منور گردانیده

(۱۶) حاجی ملا باز محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بختیار ارغسانی بپیار مشائخ گردیده از هر یک کسب نموده آخر برای تکمیل سلوک رجوع به فقیر آورده بیعت نموده کسب طریقت کرده عامل کثیر العمر که از نوادسال گذشته باشد اجازت یافتند گفتن ذکر بطبان حق مشغول است سبب عناد مشائخ ذاکریان باین فقیر بحسب ظاهر اوست و مولوی محمد جانان آخوندزاده و مولوی محمد گل آخوندزاده که در صدر مذکوراند.

(۱۷) ملا خان محمد آخوندزاده صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیه جید اول از خلیفه که از مشائخ ذاکریان بوده اخذ طریقه کرده چون بر تاثیرات و قوف یافته رجوع به فقیر آورده بیعت نموده و کسب طریقت کرده مجاز شده القاری فیوض بقلوب مردمان می نماید:

(۱۸) ملامه بان آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ به فقیر آمد و بیعت نموده و کسب طریقت نموده شرف اجازت یافت باشاعت طریقه حضرات قدسنا اللہ تعالیٰ با سرمه است

(۱۹) ملا غازی آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از ساکنان خراسان است از ابتداء داخل طریقه فقیر است کمالات بپیار دارد مجاز شده بخانقاہ فقیر که در ترکی است سکونت داشته با ذکار و مرافقات استعمال داده.

(۲۰) ملا دین محمد آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عالم فاضل از ساکنان خراسان بیعت بر دست فقیر کرده چند سال کسب طریقت نموده اجازت یافته با ذکار و مرافقات

- و تعلیم علوم ظاہری اشتغال دارد ہے
- (۲۱) ملا ابیاس آخوند سلمہ اللہ تعالیٰ بیار موحدہ عالم عامل بیعت برداشت فقیر کردہ کسب طریقت نمود اجازت یافتہ باذکار و مراقبات مشغول انہ ہے
- (۲۲) ملا پیر محمد آخوند فقیہ سلمہ اللہ تعالیٰ سرجانی بیعت بایں فقیر کردہ کسب طریقت نموده اجازت یافتہ چند کسال راذکر حق جل شانہ آموختہ باذکار و افکار و تدریس علم نقہ اشتغال دارد ہے
- (۲۳) ملامیر احمد آخوند فقیہ سلمہ اللہ تعالیٰ از سکنان خراسان است بیعت برداشت فقیر کسب طریقت نمود اجازت یافتہ باذکار و افکار و تدریس علم خود اشتغال دارد
- (۲۴) ملا سید موسی سلمہ اللہ تعالیٰ از سادات کرام پیشین است بیعت برداشت فقیر کرد چند سال کسب نمود اجازت یافتہ باذکار و مراقبات اشتغال دار ذہانت محب فقیر است صاحب اذواق و مواجهہ و انجذاب
- (۲۵) ملا خیر اللہ آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از غنڈان است برادر کلان ملامان صاحب کہ در آخر نہ کو رخواہ دش عالم فاضل بیعت کردہ کسب نمود اجازت یافتہ باذکار و مراقبات اشتغال دارد۔
- (۲۶) ملا سیف اللہ آخوند صاحب فقیہ عنڈان سلمہ اللہ تعالیٰ بیعت کرد و کسب نمود شرف اجازت یافتہ باذکار و مراقبات اشتغال دارد
- (۲۷) ملا محمد سعید آخوند صاحب فقیہ خراسانی سلمہ اللہ تعالیٰ بیعت برداشت فقیر کرد چند سال کسب طریقت نمود اجازت یافتہ باذکار و مراقبات اشتغال دارد۔
- (۲۸) ملا حاجی محمد یوسف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بیعت برداشت فقیر کرد و کسب طریقت نمود اجازت یافتہ باذکار و مراقبات اشتغال دارد
- (۲۹) ملا محمد امیر آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیہ خراسانی بیعت برداشت فقیر کردہ کسب طریقت نموده اجازت یافتہ باذکار و افکار مشغول است
- (۳۰) ملا شیر محمد آخوند تبریزی بیعت بایں فقیر کردہ کسب طریقت نموده اجازت یافتہ بالقاء انوار ذکر بطالیان حق جل شانہ اشتغال دارد۔

(۳۱) دعیمان غنی آخوندزاده صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از فقہاء زمانه مرد بیگانه بود نهایت محب فقیر بوده متفقی و متلوی در در لایت خراسان و حدود دامغان علم فقه از و بغایت انتشار یافته و فهمائے بسیار از و برخاسته بیعت بر دست فقیر کرده بود و کسب طریقت نموده اجازت یافته چند مردمان را تعلیم ذکر کرده اکثر بتدریس علم فقره استغفال می‌داشتند امسال شاهزاده حکم کل نفس ذاته الموت بحواله رحمت الہی آرامید طاب الشر تعالیٰ شراہ :

(۳۲) ملا سید نور آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عالم متفقی متلوی چهارده سال شب در زیارت حضر حاضر وقت فقیر است اخلاص تمام په فقیر می‌دارد بر دست بندہ بیعت نموده کسب طریقت کرده مشرف اجازت یافته شب در زیر باذکار و افکار سرشارند :

(۳۳) میال محمد رسول صاحب پیوندہ سلمہ اللہ تعالیٰ از قدیم بیعت بر دست فقیر کرده قدر بیست سال شده که نزد فقیر می‌گذرد و آثار و انوار و برکات و فیوضات بسیار دارد و صاحب کشف صحیح و ادراک قوی است اجازت یافته باذکار و افکار و خدمات فقیر استغفال دارد :

(۳۴) ملا عبد الجبار آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از زمان خوردگی بیعت بر دست فقیر کرده و کسب طریقت نمود مشرف اجازت یافته باذکار و افکار و خدمات فقیر چهاردهم سال است که مشغول است او صلمہ اللہ تعالیٰ الی غایتی مایتمناه :

(۳۵) ملا ظهیر الدین فقیهہ زیوی سلمہ اللہ تعالیٰ بر دست فقیر بیعت کرده و کسب طریقت نمود اجازت یافته بحواله رحمت حق جل شانه پیوست غفران اللہ تعالیٰ له :

(۳۶) ملا سید محمد زیوی بیعت به فقیر کرده کسب طریقت نموده مشرف اجازت یافته چند کسان را نگین نموده بحواله رحمت حق سبحانه پیوست غفران اللہ تعالیٰ له :

(۳۷) ملا همیت آخوندزاده صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ شیعی فقیه متفقی بکیر استن او شان و ملا امیر لک از قوم شیرازی نزد فقیر آمد و بیعت کردند تاسه و نزد بزرگیت قلبی و توف نیافتند بعد از آن مخصوص کردم و نتیجه که بخانه خود رسیدند ملا همیت هنوز بشدید آه و نعره بیکرد حتی که نماز گزاردن نمی توانست آں وقت که فقیر عزم بطرف خراسان

بمح اہل خانہ خود و تفافلہ اہل خیام کو حج کر دے درواں شدہ بہ کوہ کسی میری سید ہر روز ایشان ہے استقبال آمدند و ملاہیت صاحب منجدب بود کہ نماز گزار دن نئے تو انسٹ فقیر گفت شما عالم ہستید نماز بآرام و طمانتیت بگذارید و حرکت مکنیہ گفت بے اختیار ایں حالت اذ من و قوع مے یا بد ملامیر مذکور کہ رفیق ایشان بود چوں حال ایشان رامعاشرہ کر دگر یہ دزاری نمود کہ ماہر روزیک جاب خدمت آمدہ بود کیم او صاحب احوال قویہ گردید و مراسم پنج حال نیست زاری و مبالغہ واللحاج نمود کہ توجہ فرمائند حق تعالیٰ از نزد خود مرا ایں چپیں احوال عطا فرماید بلکہ لسبب جمل خود گفت اگر مرا بہ پرمی بگیر کہ مرا حرکت حاصل شود و منجدب شوم فقیر راقہر آمدہ گفت خداوند تعالیٰ ترا فرزندان و اہل خانہ شمارا بہ پرمی بگیرد الحمد للہ قربان حضرت شوم برکت حضرت اکثر اہل کوہ کسی میر و فرزندان و اہل خانہ ملامیر نمکہ منجدب و صاحب احوال شدند۔

قریان حضرت شوم ہرگاہ کہ ہر مردان قبر مے کنم منجدب مے شوند نئے دانم کہ سبب چیست۔ فی الجملہ ملاہیت چند سال کسب طریقت کر دے اجازت یافتہ ہزارہ ہا مردم را تعلیم طریقہ نمودہ و ہزارہ ہا دردان بہ برکت حضرات بر دست اواز دزدی تو بہ کر دہ (۳۸) ملاہاتی کسی میری فقیریہ سلمہ اللہ تعالیٰ، از خلیفہ ملامیر خان آخوند کسب کر دہ بعد از انتقال او بر دست فقیر بیعت کر دکسب طریقت نمودہ اجازت یافتہ چند کسان ذکر حق تعالیٰ آئی مونختہ ہے۔

(۳۹) ملا ولی محمد فقیریہ آخوند صاحب کسی میری فقیریہ سلمہ اللہ تعالیٰ مرد کثیر البرکت بگیر اس چند سال خدمت حضرت خواجہ سلیمان سنگھٹی رحمہ اللہ کسب طریقہ کر دہ آخوند کاتبہ بر خصت ایشان نزد فقیر آمدہ بیعت بر دست فقیر نمود کسب طریقہ کر دہ جذبات و عارفات بسیار دار دوا جازت یافتہ بالقار ذکر بخطابان حق جمل و علا مشغول ایت ہے۔

(۴۰) ملا فطرار فقیریہ صاحب کسی میری فقیریہ سلمہ اللہ تعالیٰ از ابا و اجدار خانوادہ انہ چند سال بخدمت حضرت خواجہ سلیمان صاحب قدس سرہ کسب طریقت نمودہ بعدہ نزد فقیر آمد کسب طریقہ نمودہ اجازت یافتہ با مشاعت طریقہ شریفہ اشتغال دارد۔

مکہ لفظ پشتراست معنی صرع الجن ۱۲

بنخواب دیده بود که از سینه فقیر شعله بیه دادند شمع افروخته است و مردمان از هر طرف  
فتیلهای از دروش می‌کنند با اشاره جدی بر گواز فتیله نافته روشن کرد چوں از خواب بیدار شد  
توجه به فقیر آورد :

(۲۱) مولوی معزالدین که ولی استرانه واله سلمه اللہ تعالیٰ از علماء حیدر جامع  
معقول و المنشقول چند سال بخدمت حضرت خواجه سلیمان صاحب قدس سرہ کسب کرده  
آخر بفقیر جوع آورده بیعت و کسب طریقه نموده شرف اجازت یافته به تعلیم علوم و  
اذکار و افکار و القار انوار بطالبان حق سنجانه و تعالیٰ استغفال دارد :

(۲۲) قاضی میاں عبد الغفار صاحب آخوندزاده که ولی استرانه واله سلمه اللہ  
تعالیٰ بیعت برداشت فقیر کرده کسب طریقه نموده اجازت یافته باذکار و افکار و تدریس فقه  
استغفال دارد :

(۲۳) میاں عبد الغفار آخوندزاده چودھوال واله ابام واجداد صاحب کمال بوند  
چند سال نزد فقیر محمد رضا صاحب پیوند که به دیره اسلامیل خان نزول آورده کسب طریقت  
نموده بوند و اجازت یافته به فقیر جوع آورده بیعت نموده کسب طریقت کرده اجازت  
یافته چند کس از تعلیم ذکر کرده بجوار محنت الی پیوست غفران اللہ تعالیٰ اللہ :

(۲۴) میاں غلام محمد صاحب چودھوال واله سلمه اللہ تعالیٰ - هرده سال بخدمت  
حضرت خواجه سلیمان صاحب قدس سرہ کسب کرده و دوازده سال بخدمت عبد الوہاب  
صاحب پدر میاں عبد الغفار مرحوم چودھوال واله کسب کرده چوں درخود کمال نمیده به فقیر جوع  
آورده بیعت نمود با نوار و آثار نگین شده صاحب کشف و ادراک است اجازت یافته چند  
کس را تلقین ذکر کرده باذکار و افکار استغفال دارد :

(۲۵) مولوی عبد الرحیم آخوندزاده صاحب مرحوم است اکن در این از علماء تبحر نموده  
در علم فقه و اصول ضرب المثل و بے نظیر است اذ اکن حدود دامان و پیوندگان می گفت اگر  
کتب متداوله فقه بشویند اثنا اثنا اللہ تعالیٰ از ظهر القلب خود باز می نویسم نهایت مرد  
فقیم و نمود بآداب طریقت بود بیعت برداشت فقیر کرده چند سال کسب طریقه شریف  
نموده باحوال غریبه و عجیبه رسیده کشف و ادراک صحیح داشت هر مقام را با تفصیل ادراک می  
کرد بعد از دخول طریقه شریفه حالت سابقه را کاک فرمی دید بعد از اجازت عن قریب بخطیر قدس

آرامید طاب اللہ تعالیٰ مرقدہ ہے

(۳۶) میاں عبید الغفار آخوندزاده صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ برادر خور دعبدالحیم آخوندزاده مرحوم در علم فقہ و اصول مائند برادر خود است و در علم میراث بگانه زمانه است بیعت بر دست فقیر نموده کسب طریقہ کردہ اجازت یافته به تعلیم علم فقه و اذکار و افکار مشغله است۔

(۳۷) میاں ملا عثمان آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیہ ساکن بولنی اکثر امور فقیر از تدریس و امامت نماز و کتابت مکاتیب باطرافت و بعض امور دیگر منوط باشت بر دست فقیر بیعت نموده کسب طریقت کردہ تاکمالات رسالت رسیدہ نہایت ارادت مند و محظوظ نیز است شرف اجازت یافته با ذکار و افکار و امور مذکورہ مشغله دارد ہے

(۳۸) مولوی شیر محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کلachi والہ بنج سال بخدمت مولوی صاحب والا مناقب حضرت مولوی غلام مجی الدین قصویری قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کسب طریقہ نموده بعد ازاں بنج سال بخدمت حضرت خواجه سیلیمان صاحب قدس سرہ کسب کردہ از نسبت بزرگان قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم ذخوندید به فقیر رجوع آور دبیعت نمود کسب طریقت چند سال تا حقیقت کعبہ کردہ شرف اجازت یافته با شاعت طریقہ علیہ در قبریہ واسوکہ از قرار چنانی است جائے بنا ساختہ مشغله اشتغال دار دو شرف صحبت حضرت میاں سال مشرف شدہ بود ہے

(۳۹) مولوی غلام سسن صاحب حسن اللہ تعالیٰ حالہ و اعمالہ ڈیرہ سمعیل خاں والہ از علماء جید جامع المعقول و المنشوق متفقی و متورع چند سال بخدمت والا حضرت مولوی غلام مجی الدین صاحب قصویری قدس سرہ کسب طریقت نموده چون جمل نسبت عدم دریافت آں از زمان خور دگی بروغ غالب بوده و اطلاع باحوال خوشیں نداشت حتیٰ کہ حرکت قلب و حرارت آں نبی پند اشتندر جوع بہ فقیر آورده طلب دخول طریقت نمود در جواب مولوی محمد رح گفتہ شد کہ در حلقة مانشیں کہ طریقہ واحد است و پیر شما ہماں مولوی صاحب اند فقیر در حق شما توجہ می کند بعد ازاں الحاج بسیار کردہ داخل طریقہ کردہ شد بعد ازاں چند روز بحرکت قلبی و حرارت اطلاع یافت بعد ازاں در هر سال بقدر یک دواہ نزد فقیر کوئت پندری

می باشند۔ پارسال که از خدمت سامی بندہ رخصت شده بود ببلدہ قصور گذرا قع شد  
بزیارت حضرت مولوی غلام محی الدین صاحب قدس سرہ مشرف شد حضرت صاحب  
موصوف سفارش مولوی غلام حسن صاحب نموده گفتند که بر و جمل نسبت نهایت غالب  
است توهماست قاہرہ در حق او شان بندول دارند که خداوند تعالیٰ جمل اور اعلم مبدل گرداند  
فقیر در جواب گفت که مرارتبہ ایں چنیں توجہات نیست مگر لفڑ مودن شماحتی المقدور در حق  
او شان ان شان اثر تعالیٰ توجہات کرده خواهد شد۔ وقتی که فقیر بجا نے خود رسیدہ  
مکتوب شریف خود فرستادند نوشته بودند که مولوی غلام حسن را توجہات قاہرہ فرمائند۔ الحال  
ببرکت توجہات حضرت ماقبلی در وحی فداه جمل اور اعلم مبدل گردید۔ الحمد للہ علی ذلک۔ نحوی از  
فنا حاصل کرده که تعبیر از نفس خود بانانی تو اندر کرد شرف اجازت یافته باذکار و مراقبات تدریس  
اشتغال دارد ۔

(۵۰) مولوی حمیم بخش صاحب ہر صوی اجمیری سلم اللہ تعالیٰ بہ بیمار مشائخ  
روزگار بندوں سندھ و پنجاب ملائی شدہ زیارت و صحبت نموده و ارشح احمد عرب صاحب  
مدنی الافندی الجو خدار ثم الانصار قدس سرہ در طریقہ قادریہ و حیثیتیہ اجازت یافتہ و چند کسال را  
داخل طریقہ ہم کرده از فضیار المٹی در نوکری الجریز بکار نوشت و خواند کما ہیانہ مبلغ سی روپیہ مت  
شش سال مبتلا بود چوں کمال درخود یافت از تلاش فقراء خود را فارغ نئے گذاشت۔ درین  
اثنار خداوند تعالیٰ بدل اوسی طرف انداخت در طریقہ شریفہ نقشبندیہ مجددیہ بر دست  
فقیر بیعت نمودہ تلقین ذکر اسم کم آئی عزّ اسمہ گرفت۔ عون اللہ بجوانہ بحرۃ جیبیہ صلی اللہ علیہ و  
آلہ وسلم و برکات حضرات قدسنا اللہ تعالیٰ با ساریکم الاقوام شامل حالت شد از نوکری  
بے زار گردید انجریز المحاج نمودت کہ مبلغ پنجاہ روپیہ مشاہرہ مے داد قبول نکردنوکری را والگداشت  
بکسب طریقت اشتغال دارند انوار و اثار و واردات و تجلیات و اور اک صحیح و فیوضات د  
برکات بیمار اور برداشت دارہ شرف اجازت یافتہ باذکار و افکار مشغول است و تعالیٰ برائے  
تیمہم و تکلیل سلوک نزد فقیر متوقف است ۔

(۵۱) میاں عبد اللہ واسو والہ سلم اللہ تعالیٰ کہ از قراء چیناب است چند مرتب  
کسب طریقت بخدمت پیر سید محمد صاحب حسینی قدس سرہ نموده بعد از انتقال سید صاحب  
رجوع به فقیر آورده برداشت فقیر بیعت نمود کسب طریقت کرده شرف اجازت یافتہ باذکار و

مراقبات مشغول است ہے

(۵۲) فقیر میاں عالم خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ساکن حدود گھاٹ بر دست فقیر بیعت نموده شرف اجازت یافتہ باذکار و افکار خود سرگرم اندر ہے ۔  
 (۵۳) مولوی میر واعظ صاحب ساکن دوڑ سلمہ اللہ تعالیٰ کے از منعه قاتم بنوی است فاضل کامل عالم عامل جامع المعقول والمنقول متفق و متورع بر دست فقیر بیعت نموده کسب طریقت تاکہ لاست رست کردہ بانوار داسرار ہر مقام ملوی شدہ و سحالات عجیبہ رسیدہ اجازت یافتہ مردم صد ہارا بانوار ذکر منور گردانیدہ ہے ۔  
 (۵۴) شیخ انسان ساکن قریہ گمل از ابار و اجداد اہل کمال اند اوں اخذ طریقه از حاجی صاحب کہ معروف بکامون بودند کردہ بعد از وفات ادشاں رجوع به فقیر آورده بیعت نموده اجازت یافتہ باذکار و افکار مشغول است ہے ۔

(۵۵) ملا امان اللہ اخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ - اول اخذ طریقہ شریفہ از حضرت مولوی محمد جان قدس سرہ کردہ و بعہ ازان حضرت خواجہ سلیمان صاحب قدس سرہ کسب طریقہ نموده چوں کمال نسبت بزرگواران در نمود مشاہدہ نہ کردہ به فقیر رجوع آوردہ بیعت نمود اجازت یافت ۔

وابتداء آمدن اوایں چنین است کہ بمیہ کاغذ سفارشی فضیلت نشان ملائیض محمد نیازی کہ مشہور بملایان محمد است و از خلفاء اک حضرت است نزد فقیر آورده التماں طریقہ نمود قبول نکردم - بارہ دیگر ملا غازی نام کہ از آشنایان او بودند فقیر کونت پذیر بود شفیع کردہ آورد - ملامذکور گفت کہ ایں آشنائی من است و مرد صالح است اور اتلقین ذکر کنند لطیفہ قلب اور انشاں داده مرض کردم - چوں فقیر ثانیاً بار بخراسان رسید ملا امان اللہ یاز آمدہ نزد فقیر متوقف گردید - در ایام که وقت نئنہ و محاربہ باعده دیں بود خیال کردم کہ مبادا دریں جنگ شہید شوهم پاید کہ امانتے کہ از حضرات بکار رسیدہ بکے اہل استعداد بسپارم - پس ملا غازی مذکور کہ در آں زمان نزد فقیر موجود بود با پسپردہ اجازت دادم - ملا امان اللہ چوں بربیں مقدمہ وقوف یافت اک ستم در پیٹے طلب اجازت مشد قبول نیافتاد گفتہم کہ شمارا کہ شاکن ناتمام کردہ اجازت چکونہ مے دسم و بزر جر بلیغ منع کردم چند روز بربیں گذشتند و تپیکہ مردم افغانستان ارادہ شب خون برمخالفت دین خود مے کردن و قت عصر بود کہ پچام اسپر

نقیر بزرگ فتنہ مضبوط گرفتہ گفت کہ مرا اجازت بدیہیہ ابا آور دم گفت اگر شما شہید شوید من چہ محتاج مشائخ دیگر مے شوم نگذارم اگر اسپر لیا زیانہ می زدم نمی گذاشت و اگر برکات می زدم مضبوط گرفتہ دست بردار نکے شد و اگر ار خاء عنان اسپ مے کردم ہم نے گذاشت آخر مرافقہ آمد گفتہ اجازت است بگذار مرا باز نگذاشت گفت در ہر چهار طریقہ مرا اجازت بدیہیہ گفتہ شما احمد ہے تھی ہم نگذاشت آخر باز بقہر گفتہ در ہر چهار طریقہ اجازت است مطلب آنکہ از وہ جان خود خلاص کنم چہل از مقدمہ جنگ فارغ شدہ بجائے خود سیدیم اور اب طریقہ نصیحت گفتہ آں چہ شد نی بو در باب اجازت شد الحال شمار الازم کہ مکہ میت بستہ شب در روز درست اصل طریقہ حضرات ما استغفار دارید بعد از چند سال مخصوص بطرف نہرات شدند حق تعالیٰ اجل شانہ از نزد فضل خود بامداد توجہات حضرت ماقبلی در وحی فداہ آں چنان تاثیرت قویہ با وار زانی فرمود کہ در اول روز کو ہستان از نواحی غور سی صد کس ریقه ارادت در گردان انداختہ داخل طریقہ شدند و جذبات قویہ و حالات جلیس اوس شان را دست داد تا حال بفضل ایزد متعال در عروج در ترقی است حق سُبْحانَه اور ابانوار و اسرار و مواجهہ فیوضات و برکات بئین پیران کیا منور گردانیده مرد بالکمال و محستہ احوال اشاعت طریقہ می نماید چنانچہ بزرگ امر دم را نگین ساختہ و بیار کسان را اجازت دادہ کہ سلیمان کس ازان معلوم ایں نقیر است تا حال در ای حدود شرف درود دارند و مردمان رافیوض و برکات می رسائند نام ہائے خلفائی ایشان این است :-

اول ملائیں صاحب در درہ دُزد مے باشد کہ از ملک فراہ است صاحب  
گرامت و خوارق عادات است یکے از کرامات او این است کہ پک ملا آمدہ برو  
زبان طعن کشاد کہ شرط ایشاد کرت علم است و توحید اعلیٰ نداری او گفت عطاے  
اللّی و برکت او در کار است از علم سکی چیز نکے کشا پیفضل باید آں ملا گفت کہ شما چہ برکت  
دارید در آں چا بچہ نوزادہ چهل روزہ بود ملائیں صاحب گفت کہ اگر ایں بچہ نوزادہ زبان  
خود را بذکر اللّی جریا نے کند برکت من معلوم نے کنی گفت بلے باں بچہ کہ در کیوارہ بود  
اشارت کرد کہ بگو لا الہ الا اللّه اولیٰ آں بچہ بن بان فضیح گفت لا الہ الا اللّه ملائم شد  
داخل طریقت شد .

دویم سیادت پناہ حقائق و معارف آگاہ حافظ ملا عبد الخالق اخوند در ولایت

آنے کو نت دارد -

<sup>سیم</sup> سیادت پناہ قاضی ملا رسول اخوندزادہ در ولایت صدر استقامت دارد  
چهارم، غلام اخوند کہ در شہر ہرات کو نت می دارد -

پنجم، ملا عطا محمد اخوند در شہر ہرات می باشد -

ششم، ملا جہاں اخوند در ولایت گلستان می باشد -

ہفتم، ملا شمسوار اخوند عرب ساکن زند اور از حدود قندھار -

ہشتم، ملا دین محمد اخوند در بکو اس کو نت می دارد -

نهم، قاضی نور محمد صادق اخوند در قیصار می باشد -

دهتم، ملا فیض محمد اخوند در فراه می باشد -

یازدهم، ملا محمد رسول در ساغرمی باشد -

دوازدهم، ملا الف اخوند در ولایت گورزنگ باشد -

<sup>سیزدهم</sup> سیزدهم، ملا جلال اخوند در خدمت او شان می باشد۔ و ایں ہمہ سیزده تن پنجم  
خود دیدہ ام کہ ہر کیب صاحبِ کمال و حالاتِ قویہ دارند۔ ایں سیزده مردم در اول سالہ  
مجاز شدہ اند الحال کہ زمانہ بسیار گذشتہ خلفاء، او شان بسیار سمع مارسیدہ -

ثانیاً معروض آں کہ در حلقة ایں حلقة بگوش در اول وہله جذبات و آہ و نعرہ و بیت تابی و  
گریباً و خنده و فتنہ و بے خودی و غیبت و استغراق می بودند حتی کہ در بعض اوقات ہمہ  
اہل حلقة کہ گاہے پنجاہ و گاہے بصد کس رسیدہ بودند بے طاقتیہ می کردند و بر کمی افتانند  
الحال آں احوال بآں منوال نہاندہ مگر دو کس را گاہے آں اضطرابات دست می دہد گاہے  
مث - و بجاۓ آں حالات استغراق و محیت و حضور و آگاہی بحق تعالیٰ سبحانہ غالب می  
باشد۔ بعضے مردان را در حالت صلوٰۃ کیفیتی روئے دہد کہ مجرد گفتہ تکیر تحریکیہ در قیام  
بیوش شدہ استادہ می باشند تاکہ وقت صلوٰۃ خارج شدہ می رود و آں شخص بہماں  
حالت باقی باشد باز بزمیں می افتاد مانند مردہ و کسے را ایں در کوع دست می دہد و  
کسے در بحود و کسے را در شہد و بعضے را بعد از گذشتہ وقت نمازو بعضے بعد از گذار دن نہماز باتفاق  
می آیند و بعضے در حالت ذکر و بعضے در حالت مراقبہ و بعضے بغیر آں جسد و بدنه خود را مانند خانہ

معہ و عنہ علاقہ ہرات است ۱۲

ویا مثل کوہ کلاں مے بینند و بعضے سہرہ زمین راز حسد خود پر مے یا بیند و بعضے خود را چنان طویل می  
بینند کہ گویا سر خود بآسمان مے ساینڈ بلکہ ازاں سے گذرانند و بعضے بجز وجود خود تیج نہے بینند۔ و  
بعضے سہرہ راحتر مے انگارند بلکہ سہرہ او است مے دانند و بعضے آواز کلمہ انا الحق از هر عضو و بن موئے  
خود مے شنووند و بزرگ گفتگ نہے تو اند دا اس حالات بعضے راتا مرست طولیہ و بعضے راتا مرست  
قلیلہ می ماند بعد ازاں منقطع می شود و حالات دیگر روئے دہد و بعضے را کشوف ناسوتیہ بعضے  
را کشوف ملکوتیہ حاصل مے شود و بعضے را حالت جو عیہ چنان غلبہ مے نماید کہ پہنچ چیزے  
سیرنے شوند بلکہ گویند کہ اگر بار اشتگندم خام مے خورم سیرنے شوم۔ قربان حضرت شوم  
ایں چہ حالات است اطلاع فرمائند و در حلقة مولوی میر باز صاحب و ملا دران صاحب و  
مولوی محمد جانان صاحب و ملا خان محمد صاحب و ملا امان اللہ صاحب و مولوی محمد عادل صنا  
و مولوی میر واعظ و ملا ہبیت اخوند صاحب و مولوی شیر محمد صاحب ایں احوالات جذبات  
و آہ و نعره و نالہ و اضطراب و استغراق و بے خودی و غیبت و محیت زیادہ از حد است کہ  
مشائخ ایں ولایت و علماء ایں دیوار نید و نشیدہ اند از ایں جمیت بجا بے نوایان و غریبان  
حسد و غض و کینہ وعدا و است می ورزند ہر اکم اللہ بجانہ و تعالیٰ واپانا۔ انک پھر چیزے از احوال  
خود و خلفاء و سائر مسترشدان آن حضرت نوشته شد و ایں سہرہ حالات و فیوضات و برکات  
کشیفات و کرامات از آن حضرت است قلبی دروحی فداہ ۵

بے لطف تو من ترا نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد  
گر برت من زبان شود ہر موئے یک شکر تو از هزار نتوانم کرد  
او بجز نافی واجز نافی نہ ایم او دمے بے ما و مابے دے نہ ایم  
نے کہ ہر دم نغمہ آرائی کند فی الحقيقة از دم نافی کند  
نیا در دم از خانہ چیزے نخست تو دادی سہرہ چیز و من چیز تست  
ایں بے عمل بے کردار رو سیاہ چیز نیست کہ خود را درمیان آرد۔ ثانیاً آن کہ اگر مند  
امام المسالیین حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطبوع یاقلمی پدست  
آید برائے فقیر خبر پیدہ ہر بانی فرمودہ ارسال دارند۔ تنگ وقت بسبب تہیار و انگی خراسان و  
کثرت احوال حلقة بگوشاں کہ پہمین انفاس قدسی اساس نقد وقت ایشان است حوصلہ  
تفصیل نداشت مع آن کہ مخدوم زادہ ام صاحب در طلب جواب کرامت نامہ استعمال

فرموده اند. ایں لائشے را چوں رزانست تحریر و متن است تحریر نیست هر جائے کہ خطای رفتہ باشد بجسون الطافین کریمانہ اصلاح فرمائند زیادہ خدادب. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحیہ اجمعین ہے

## مکتوب بیت و دوام بنام ملامیر اعظم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد ، فالسلام المسنون والدعاء المشحون - من الفقير الحقير لا شئ درست فيهم المعرف بال حاجی کان اللہ له عوض اعز كل شئ -

على اخي الشریف العزیز ملامیر اعظم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن حوادث الزمان والتوائب ان احوال هذ المکان من کل الوجوه قریبین بحمد اللہ سبحانہ المسئول من اللہ تعالیٰ سلامتکم وعافیتکم وثباتکم على الشریعة والطریقة الحقيقة فانها فوق الكرامة ويرحم اللہ عبدا قال امینا -

فأعلم يا أخي قد ظهرت وبديعتها في هذه الزمان فرقه وهايمه تسمى أنفسها بالمحاذين وبسبب سجدة الباطن وفساد العقيدة طال لساوها في ذممها من اخضرة النعمان بن ثابت الكوفي امام المفسرين والمحدثين وانكرت من ايجتها داد الائمه المجتهدين المتقدمين والمتاخرين وحصر المذاهب الاربعه وقد اتفق على حصرهم علماء السلف الصالحين فصار حصرهم ثابتاً بانعقاد الاجماع وابيئن يعون الله تعالیٰ بجل شأنه شتمةً من مناقب الامام الموصوف ونبيله من دلائل حصر المذاهب الاربعه رغم الالاف المخاصيم الطاغين في شأن الائمه المجتهدين . فاقول يا الله التوفيق من الكتاب المستطاب المسند للأمام الاعظم اعني حضره النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله عليه المعروفة في الآفاق بمسند الغوازري . الباب الأول في ذكر شئ من فضائله التي تفرد بها اجماعاً فنقول وبالله التوفيق مناقبه وفضائله كالخصى لا تُعد ولا تُحصى ولا يمكن ان يستقصى لكن الفضائل التي تُحصى وتفرد بها ولم يشاركها اجماعاً من بعد احد فيها يمكن احصائها وضبطها في عشرة انواع .

الْأَوْلَى، فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَثَارِ الْمُرْوِيَّةِ فِي مَا حَدَّدُونَ مَدْحُونٌ مَدْحُونٌ بَعْدَهُ -

الثَّانِي فِي أَنَّهُ وَلِلَّهِ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرْنَ الَّذِي شَهَدَ لِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِيَّةِ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

الثَّالِثُ، فِي أَنَّهُ رَوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

الرَّابِعُ، فِي تَبَرُّزِهِ فِي عَهْدِ التَّابِعِينَ لِلْفَتْوَى دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

الْخَامِسُ، فِي أَنَّهُ تَلَمِّذَ وَاسْتَفَادَ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَوَّلِيَّاتِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

السَّادِسُ، فِي سَرْوَاتِهِ عَنِ الْكَبَارِ مِنَ التَّابِعِينَ وَعِلَّمَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

السَّابِعُ، فِي أَنَّهَا تَقَوَّلَ لِمَنْ أَصْحَابَ الْعَظِيمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ مَا لَمْ يَتَقَوَّلْ لِهِ أَحَدٌ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

الثَّامِنُ، فِي أَنَّهَا أَوَّلُ مَنْ أَسْتَبَطَ الْحُكْمَ وَأَسْتَسَ قَوْاعِدَ الْإِجْتِهَادِ وَبِالْغَرَفِ الْحُكَامَ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

النَّاسِعُ، فِي أَنَّهَا لَمْ يَقْبِلْ الْعَطَاءَ يَا عَنْ خَلْفَاءِ الْبَرَائَابِلِ أَفْضَلُ مَنْ كَسَبَ عَلَى جَمَاعَةِ

الْفَقِيهَاءِ دُونَ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

الْعَاشِرُ، فِي وَفَاتِهِ وَشَهَادَتِهِ بِسَبِيلِ تَوْرِيعِهِ عَنِ الدِّينِ يَأْرِجَاهُ مَدْحُونٍ مَدْحُونٍ بَعْدَهُ -

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَقَدْ أَخْبَرَنِي الصَّدِيقُ الْكَبِيرُ شَرْفُ الدِّينِ اَحْمَدُ بْنُ مُؤْمِنِ بْنُ مُوقِّي بْنُ

احْمَدِ الْمَكِّيِّ قَالَ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ هَمَّاجُ بْنُ اسْحَاقِ السَّرَّاجِ الْخَوازِنِيُّ اَنَا اَبُو حَفْصٍ عَمْرِ بْنِ اَحْمَدِ

الْكَرَاسِيِّ اَنَا اَمَامُ اَبْوَالْفَضْلِ هَمَّاجُ بْنُ حَسْنِ النَّاصِحِ حَدَّثَنَا اَبُو القَاسِمِ بْنُ طَاهِ الْبَصْرِيِّ

حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفُ اَحْمَدُ بْنُ هَمَّاجِ الْوَاعِظِيِّ فِي رِبَاطِ اِبْرَاهِيمِ بْنِ اَدْهَرِ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ

هَمَّاجُ بْنِ نَصْرِ الْوَاقِقِ قَالَ اَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ اَمَامُونَ بْنُ اَحْمَدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ

اَحْمَدُ بْنِ عَلِيِّ الْحَنْفِيِّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مُوسَى السِّينَائِيُّ عَنْ هَمَّاجِ بْنِ عَمْرِ وَعَنْ اَبِي سَلْطَانِهِ

اَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مِنْ

اَمْتَى سَرْجِلٍ يُقَالُ لَهُ اَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سَرْجِلٌ اَمْتَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَنْ اَبِي سَلْطَانِهِ عَنْ

هَرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَنِّي اَمْتَى رَجْلًا وَفِي حَلَّيْمٍ

القصرى يكون في امتى رجل اسمه نعماً وكنيته ابو حنيفة هو سراج امتى هوس راج امتى هوس راج امتى. عن ابأن بن ابي عياش عن النس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرأني من بعدي رجل يقال له نعماً بن ثابت ويكتن ابا حنيفة ليحيى دين الله وسنتر على يده. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من بعدي رجل يعرف به ابا حنيفة ليحيى الله سنتر على يديه. عن عبد الله بن مغفل قال سمعت امير المؤمنين علي بن ابي طا رضي الله تعالى عنها يقول لا ابغكم بوجل من كوفان من بلدكم هذه او من كوفتك هذه يكنى بابي حنيفة قد ملئ قلبه علماء حكماء سيمثل به قوم في آخر الزمان الغالب عليهم التناحر يقال لهم البنانية كما هلكت الرافضة بابي بكر وعمرو رضي الله تعالى عنها. عن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال يطلع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدر على جميع خراسان يكنى بابي حنيفة رضي الله تعالى عنه حدثنا الحسن بن اسحاق بن الحسن عن ابي عبد الرحمن عن الزهار قال شهدت حمادا وجاءه ابو حنيفة فقال له حماد يا ابا حنيفة انت نعماً بن ثابت الذي ذكر لنا ابراهيم قال سقا الله زمان يكون فيه رجل يقال له نعماً يكنى بابي حنيفة ليحيى احكام الله تعالى رسوله وخبرى بعد ابدل ما يتقى الاسلام ولا يهلك من اتخذه وعمل بها فان انت لقيته فاقرأها مني السلام. عن كعب الاحبار قال اني لا اجد اسامي العلماء واهل العلم مكتوبة بصفاتهم زمان واني لا اجد اسامي رجال يقال لهم نعماً بن ثابت يكنى ابا حنيفة و امثال شاناعظيمها في العلم والفقه والعبادة والحكمة والزهادة قد ساد اهل زمانه من اهل العلم فمن تبعه اهتدى وهو بذرهم يعيش مغبوطا ويموت شهيدا. عن عبد الله بن المبارك قال اخبرني ابن هبعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قرن امتى سأبقوهن وابو حنيفة سابق هذه الامة. قال سمعت الامام الشافعى يقول اني لآت بركه بابي حنيفة سرجم الله واجع الى قبره فاسأله الله تعالى الحاجة عند قبره فما تبعد عنى حتى تنقضى والشذى الصد الكبير شرف الدين احمد بن المؤيد المكي الخوارزمي قال الشذى الصد العلامه صد الامم ابو المعلى بن موفق احمد

المكي لنفسه ٥

رسول الله قال سراج ديني  
غسل ابن الصوابية في الفتوى  
سدى دينياً فتى لا اجتهاد

اما النوع الثاني، من مناقبها وفضائله التي لم يشارك فيها من بعده من ارباب  
المذهباته ولد في زمان الصحابة على ما أنساني الشيخ المعمور شيش الدين الى آخر  
قال سمعت مراحم بن داود بن علية عن أبيه قال ولد أبوحنيفة سنة احدى و  
ستين وما ت سنة مائة وخمسين ولهذا القول تفرد بالحسن بالخلاف فاما القول الشهير  
انه ولد سنة ثمانين من الهجرة الى آخر الاسناد وعن أبي سعد قال سمعت الواقدي يقول  
سمعت حماد بن أبي حنيفة يقول ولد أبي سنة ثمانين وهو كذلك اخرج به الحافظ ابوالقاسم  
طحنه بن محمد بن جعفر الصفار في مسنده وقال اي ابوحنيفة توفي في ايامى عبد الله بن جعفر  
بن أبي طالب وابوامامة الباهلي وروأته بن الاس quem وعمر بن حريم وعبد الله بن أبي اوبي  
وجماعة من الصحابة يقول اضعف عباد الله محمد العزى الخوارزمي فثبت بذلك انه ولد في  
زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اهل القرن الذي شهد له رسول  
الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ووصفه بالعدلة فان اصحاب الحديث اختلفوا  
فيهم من جعل ابا حنيفة من القرن الثاني وقد اجمعوا ان ولادته كانت في القرن الاول  
واجتهده في القرن الثاني انشد في صدر الامامة ابو المؤيد الموفق بن احمد المكتبي الخوارزمي

لنفسه ٥

غدا من هب نعماً خير المذاهب  
لذ القبر الوضاح خير الكواكب  
تفقه في خير القرآن مع التقى  
من هب لاشك خير المذاهب  
اما النوع الثالث، من مناقبها وفضائله التي لم يشارك فيها من بعده انه روى  
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلماء اتفقوا على ذلك ان اختلفوا  
في عدّهن منهم من قال اثنتي عشرة رجالاً وامرأة ومنهم من قال خمسة وامرأة ومنهم من  
قال سبعة وامرأة -

اما النوع الرابع، من مناقبها وفضائله التي تفرد بها ولم يشارك فيها من بعده انه  
اجتهد رافقي في زمان التابعين رحمة الله تعالى عليهم جميعاً - وقال صاحب الدليل

وشارحة الطهارى والفقىء ذرعى عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سقاوه علقةه  
وحسين ابراهيم الخنفى وداسه حماد وطحنه ابوحنيفة ومجنة ابو يوسف ومحبزة همن و  
سائر الناس يأكلون من خبزهم وقل نظمه بعضهم فقال س

الفقىء ذرع ابن مسعود وعلقه حاصل لا ثم ابراهيم داس

نعمان طاحنه يعقوب علجهن همن خابز والأكل الناس

وقل ظهر على بتصانيفه كالجامعين والزيادات والنواذر حتى قيل انه صنف في  
العلوم الدينية تسعة عشر كتاباً وتسعين كتاباً أو من تلامذته الشافعى رضى الله تعالى  
عنها وتزوج بأمر الشافعى وفوض اليه كتبه وما له من نصار الشافعى فقيها لقدر انصاف الشافعى  
حيث قال من اراد الفقىء فليلزم اصحاب ابي حنيفة فان المعنى قد تيسر له اهله  
ما صرحت فقيها الا بكتاب محمد بن الحسن وقال اسماعيل بن ابي رجاد رأيت محمد في المنام  
فقدلت ما فعل الله بك قال غفرانى قال لو اسررت ان اعمل بك ما يجعلك هذا العلم  
فيك فقدلت له فاين ابو يوسف قال فوقنا بدجتىن قلت فابو حنيفة قال هي هات  
ذلك في أعلى عليين وكيف وقد صلى الفجر بوضع العشاء اربعين سنة وبحسب خمساء  
خمسين سنة ورأى ربته في المنام مائة مرة ولها قصة مشهورة وفي الحجة الأخيرة استاذ  
حجبة الكعبة بالدخول ليلاً فقام بين العصرين على رجله اليمنى ووضع اليسرى على  
ظهرها حتى ختم نصف القرآن ثم رفع يدها ثم فاض على رجله اليسرى ووضع اليمنى  
على ظهرها حتى خدم القرآن فلما سلم بيديه زنجي سربه ما عبد لك هذا العبد الضعيف  
حق عبادتك لكن عمر ذلك حق معرفتك فهو بقصان خل منه لك كل معرفة فهو تف  
هاتف من جانب البيت يا ابا حنيفة قد عمرتني حتى المعرفة وقد خدمتني فلحسن  
الخلمة وقد غفر لك ولمن اتبعك فمن كان على من هبتك الى يوم القيمة تُقبل لابي  
حنيفه بمبلغ ما بلغت قال ما بخلت بالآزاده وما استنكفت عن الاستفادة قال مساوا  
بن كلام من جعل ابا حنيفة بينه وبين الله سرجوت ان لا يخاف وقال فيه شعره

حسبى من الخيرات ما اعدت له يوم القيمة في رضى الرحمن

دين النبي محمد خير الورى ثم اعتقادى من هب النعمان

وعنه عليه الصلاوة والسلام ان آدم افتخر بي وانا افتخر برحيل من امهى اسمه نعمان

وكنيته ابو حنيفة هو سراج امتى . وعنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفتخرون  
بـى وانا افتخر بـى حنيفة من احبـى فقد احبـنى ومن ابغضـى فقد ابغضـنى كذلك في التقدمة  
شرح مقدمة ابـى الـيث و قال في الفـيـاء المـعنـوى وقول ابن الجـونـى انه مـوضـوع  
تعصـب لـانـه سـرـى بـطـرق مـخـتـلـفـةـ وـرـوـى الجـرجـانـى فـي مـنـاقـبـه بـسـنـدـ لـسـهـلـ بـنـ عـبـدـ اللهـ  
الـتـسـتـرىـ اـنـهـ قـالـ لـوـكـانـ فـي اـمـةـ مـوـسـىـ وـعـيـسىـ مـثـلـ اـبـىـ حـنـيـفـةـ لـمـاـ هـوـ دـاـولـ مـاـ تـصـرـ وـاـ  
وـمـنـاقـبـهـ الـثـرـمـنـ اـنـ تـحـصـىـ وـصـيـنـفـ فـيـهـ سـبـطـ اـبـىـ الجـونـىـ بـجـلـدـيـنـ كـبـيرـيـنـ سـعـاـةـ الـاتـصـاـ  
لـامـامـ اـمـمـةـ الـامـصـارـ وـصـيـنـفـ غـيـرـهـ الـثـرـمـنـ ذـلـكـ .

ولـلـحاـصـلـ اـنـ اـبـاـ حـنـيـفـةـ نـعـانـ مـنـ اـعـظـمـ مـجـزـاتـ الـمـصـطـفـيـ بـعـدـ الـقـرـآنـ حـسـبـ

مـنـ مـنـاقـبـهـ اـشـهـارـهـ بـهـ، ماـ قـالـ قـوـلاـ الاـ اـخـلـ بـهـ اـفـاـمـ مـنـ اـلـامـمـ الـاعـلـاـمـ وـقـدـ جـعـلـ

اـللـهـ الـحـكـمـ لـاصـحـابـهـ وـاـتـبـاعـهـ مـنـ زـمـنـهـ الـىـ هـذـهـ الاـيـامـ الـىـ اـنـ يـحـكـمـ بـهـ عـيـسىـ عـلـيـهـ

الـصـلـوـةـ وـالـسـلـاـمـ وـهـذـاـ يـدـلـ عـلـىـ اـهـرـ عـظـيمـ اـخـتـصـ بـهـ مـنـ بـيـنـ سـائـرـ الـعـلـمـاءـ الـعـظـاـمـ كـيـفـ

لـوـهـوـ كـالـصـدـيقـ رـضـىـ اـدـلـهـ عـنـدـهـ اـجـرـهـ وـاجـرـمـنـ دـوـنـ الـفـقـهـ وـالـفـرـعـ اـحـکـامـ

عـلـىـ الـاـصـحـوـلـ الـعـظـاـمـ الـىـ يـوـمـ الـحـشـرـ وـالـقـيـامـ وـقـدـ اـتـبـعـهـ عـلـىـ مـنـ هـبـهـ كـثـيرـ مـنـ الـاوـيـاءـ

الـكـرـامـ مـنـ اـتـصـيـفـ بـثـيـاتـ الـمـجاـهـدـ لـاـ وـرـكـضـ فـيـ مـيـدانـ الـمـاـهـدـ لـاـ كـاـبـراـهـيـمـ بـنـ اـدـهـمـ

وـشـقـيقـ الـيـلـخـىـ وـمـعـرـفـ الـكـرـخـىـ وـابـىـ يـزـيدـ بـسـطـاـهـىـ وـفـضـيـلـ بـنـ عـيـاضـ دـاـودـ الطـائـىـ وـ

ابـىـ حـادـىـ الـلـفـافـ وـخـلـفـ بـنـ اـيـوبـ وـعـبـدـ اـللـهـ بـنـ الـمـبـارـكـ وـوـكـيـعـ بـنـ الـجـراحـ وـابـىـ

الـقـاتـقـ وـغـيـرـهـمـ مـنـ لـاـ يـحـضـرـ لـهـ عـلـىـ اـنـ يـسـتـقـصـ فـلـوـ وـجـدـ وـاـفـيـهـ شـبـهـةـ مـاـ اـتـبـعـهـ وـ

لـاـ اـتـدـ وـابـهـ وـلـاـ وـاقـقـوـهـ وـقـالـ الـاسـتـاذـ اـبـوـ القـاسـمـ الـقـشـيرـىـ فـيـ رسـالـةـ مـعـ صـلـابـةـ فـيـ

مـنـ هـبـهـ وـتـقـدـمـهـ فـيـ هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ سـمـعـتـ الـاسـتـاذـ اـبـاـ عـلـىـ الدـقـاقـ يـقـولـ اـنـ اـخـذـتـ

هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ مـنـ اـبـىـ القـاسـمـ النـصـرـ اـبـادـىـ قـالـ اـبـوـ القـاسـمـ اـنـ اـخـذـهـ مـاـ تـهـامـ الشـبـلـ وـ

هـوـ اـخـذـهـ مـاـ تـهـامـ السـرـىـ السـقـطـىـ وـهـوـ مـعـرـفـ الـكـرـخـىـ وـهـوـ مـنـ دـاـودـ الطـائـىـ وـهـوـ اـخـذـ

الـعـلـمـ وـالـطـرـيـقـةـ مـنـ اـبـىـ حـنـيـفـةـ وـكـلـ مـنـهـمـ اـثـنـىـ عـلـيـهـ وـاقـرـ بـفـضـلـهـ فـيـ جـمـيـعـ الـلـكـ

يـكـنـ اـسـوـةـ حـسـنـةـ فـيـ هـذـهـ الـسـادـاتـ لـكـبـارـاـ كـاـنـواـ مـتـهمـيـنـ فـيـ هـذـهـ الـاـفـرـارـ وـالـاـفـتـارـ

وـهـمـ اـمـمـةـ هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ وـاسـ بـابـ الشـرـيعـةـ وـالـحـقـيقـةـ وـمـنـ بـعـدـ هـمـ فـيـ هـذـهـ الـاـمـرـ فـلـهـمـ

تـبـعـ وـكـلـ مـنـ خـالـفـ مـاـ اـعـتـدـ وـهـ دـرـ وـدـ وـمـبـتـدـعـ وـبـالـجـمـلـهـ فـلـمـ اـبـوـ حـنـيـفـةـ فـيـ زـهـلـ وـدـعـهـ

وَعِبَادَتِهِ وَعِلْمِهِ وَفَهْمِهِ بِمُسَارِكِهِ وَمَا قَالَ فِيهِ أَبْنَى الْمَبَارَكَ ٥  
 اِمَامُ الْمُسْلِمِينَ ابْو حَنِيفَةَ  
 كَآيَاتِ الرَّبِيعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ  
 وَلَا فِي الْمَغْرِبَيْنِ وَلَا بِكُوفَةِ  
 وَصَاهَرَ نَهَارَهُ لِلَّهِ خَيْفَهُ  
 اِمَامُ لِلْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةِ  
 خَلِافُ الْحَقِّ مَعَ بَجْجَ ضَعِيفَهُ  
 لَهُ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ شَرِيفَهُ  
 صَحِيحُ النَّقلِ فِي حَكْمِ لَطِيفَهُ  
 عَلَى فَقِهِ الْإِمَامِ ابْنِ حَنِيفَةَ  
 لَقْدِ زَانَ الْبَلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا  
 بِاحْكَامِ وَأَثَارِ وَفَقِهِ  
 فِيمَا فِي الْمَشْرِقِيْنَ لَهُ نَظِيرٌ  
 فَقَامَرُ مُشَتَّرًا سَهَرَ الْلَّيَالِي  
 فَمَنْ كَانَ بِحَنِيفَةِ فِي عُلَاءِ  
 رَأَيْتَ الْعَائِبِيْنَ لِسِفَاهَهُ  
 وَكَيْفَ يَخْلُّ اَنْ يَئُؤُ ذَيْ فَقِيهِ  
 فَقَدْ قَالَ ابْنُ ادْرِيسَ مُقاَلًا  
 بَأْنَ النَّاسُ فِي فَقِيْرِ عِيَالِ  
 فَلَعْنَةُ رَبِّنَا اَعْدَادُ رَمَلِ  
 عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابْنِ حَنِيفَةَ

وَقَدْ ثَبَّتَ اَنَّ ثَابِتًا وَالدَّالِ الْإِفَامَ عَلَى بَنِ ابْنِ طَالِبٍ فِي عَالَ وَلَذَرِيَّةَ  
 بِالْبَرِّكَةِ وَصَحَّ اَنَّ ابْنَ حَنِيفَةَ سَهَمَ الْحَدِيثَ مِنْ سَبْعِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا بَسَطَ فِي اَوَاخِرِ مِنِيَّةِ  
 الْمُفْتِي وَادْرِكَ بِالسِّنَنِ خَمْسِيْنَ مِنْ شَرِيفِيْنَ صَحَابِيَاً كَمَا بَسَطَ فِي اَوَّلِ الْفِيَاضِيْنِ  
 شَمْسُ الدِّينِ شَمْسُ ابْو النَّصَرِ ابْنُ عَرْبِ شَاهِ الْاِنْصَارِيِّ لِلْعَنْفِيِّ فِي مَنْظُوفَةِ الْاَلْفِيَّةِ الْمَسْمَى  
 بِجَوَاهِرِ الْعَقَائِدِ وَدَرَسَ الْقَلَائِبَ ثَمَانِيَّةَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ رُؤْيَى عَنْهُمُ الْإِمَامُ الْاعْظَمُ ابْنُ  
 حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِمْ وَاجْمَعِيْنَ حِبَّتْ قَالَ ٦

ابْنِ حَنِيفَةَ الْمُفْتِي النَّعْمَانِ	مُعْتَقِدًا يَقِنُ هَبَّ عَظِيمَ الشَّكِّ
بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ سَرَاجُ الْأَمَةِ	الْتَّابِعِيُّ سَابِقُ الْأَئِمَّةِ
اَشْرَهَ مَقْدِسًا قَتَضَى وَسَلَكَ	جَمَاعَمِنَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ادْرِكَ
سَالَّمَةً مِنَ الْضَّلَالِ السَّاجِيِّ	طَرِيقَهُ وَاضْرِحَةَ الْمَنَهَاجِ
وَابِي اَدِيِّ كَذَا عَنْ عَاهِرِ	وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَنْسِ وَجَابِرِ
ابِنِ وَاثِلَّهِ وَعِنْ ابْنِ جَزَءِ	اَعْنَى اَبَا الطَّفَيْلِ ذَا
هِيِّ الْتَّاهِرِ وَتَوَّفَّى بِبَغْدَادِ	قَدْرَى الْإِمَامِ وَبَذَتْ عَجَرَادِ

بدانکه اے برادر گلمحمد چندر بنابر حصر مذاہب اربعه از کتاب مستطاب شرح سفر سعادت که از  
 تصنیف شیخ عبدالحق محدث الدہلوی رحمۃ الرحمن علیہ رحمۃ واسعة است میں نگارم تادفع تشویش  
 از دلہما متردین دور گرد و صاحب کتاب مذکور منشاً اختلاف آئمہ و اسامی او شاہ بالتفصیل  
 تاریخ ولادت و استقال و اسبیقت و لاختیت ہر کیک از بیان چهار امامان مشهورہ بیان ساخته  
 اند بعد ازاں فرموده اند که ایس چهارتین از امامان دین و مقتدا یاں ملت اند که ضبط و ربط احادیث  
 و اقوال صحابہ و سلف و تطبیق و توفیق میان آئه نموده تفسیر تادیل و بیان ناسخ و مسوخ کرہ  
 و غایت بدل مجہود دریں با ب فرموده استنباط احکام بقياس و اجتہاد از نصوص کتاب و  
 سُنّت نمودند و غیر مجتهدان راجز تابع ایشان بودن چارہ و سبیلے نیست و مثلیخ طریقت  
 دبزرگان ایشان ہم بھریں مذاہب بودند یا رب مگر آئه نمایے کہ ایشان بجائے اجتہاد رسید  
 و موافق یا مخالف ایشان برائے خود اجتہاد میں نموده پا شند والشراعلم . و دانکه گویند الصوفی  
 لامذہب لہ نہ بایں معنی است کہ اور اردین مذہب نیت و تابع مذاہب نہ وہرچہ خاطر ش  
 خوش دارد و دش بدان حکم کند ہم بدان عمل کند بلکہ توجیہ ش چنانکہ گفتہ اند آنست کہ وے در بعض  
 مواضع از مذاہب آپنے دراں درع و احتیاط بیشتر پا پد اختیار کند ہر مذہب کہ باشد و یا  
 آئکہ بمنذہب اہل حدیث کہ بہرچہ حدیث صحیح یا بد بدان عمل کند . محققان گویند کہ ایں نیز علی  
 الاطلاق صحیح نہ بود تحقیق آن است کہ ہم از روایات مذہب خود کہ آن را اختیار کرده اند و وجہ اقتدا  
 ساخته است روایتے اختیار کند کہ احوط بود یا موافق ظاہر حدیث صحیح باشد اگرچہ ظاہر  
 روایت و مشهور ازاں مذہب نہ بود و الاتفرق مذہب و تعدد و جمہة موجب تفرق اعمال  
 ظاہر گرد و اذ انجام روایت به تفرق و عدم ضبط احوال باطن کند و فرموده اند که قبلہ توجیہ یکے باید  
 چہ امام شریعت و چہ شیخ طریقت تابنا . توحید حکم و قدم تحقیق راسخ گرد و چہ تشکب و تفرق  
 اصل موجب تشکب و تشتت فرع بود پس ضبط نفس باصل مرجوع الیہ فقہاء اصولاً و  
 تصوفاً لازم بود کذا ذکرہ بعض المحققین میں فقہاء الصوفیہ و آپنے در حدیث است کہ استنفدت  
 قلبک یعنی فتویے از دل خود طلب کن وہرچہ فرماید و بد اپنے حکم کند بدان روایں در صورت  
 تعدد و تذبذب است یعنی آن جا کہ دلائل از قرآن و احادیث و اقوال علماء مختلف آیند و  
 تعارض نہاید و در دائرہ تحریر و تردداً فکہ حاکم دریں صورت تحری قلب و ترتیح است تا ازاں  
 اقوال آپنے دل لشین او گردد اختیار کند و عمل نماید و آن نیز در مادہ قلب مطہر مرگی منور بنور ایکان

وتفوی است که بنور فرات ک در جو هر ایمان ابداع نموده اند آنچه حق است در یابد آشنا  
 اختیار کن که خیر و صواب در آن بودن ه است که هر چه در دش افتادم بران عمل کنند بد و رجوع بدائل  
 شرعاً یعنی که این سخن روئے بجانب الحاد و اباحت دارد و پائی لغزش جا به لان است بالجمله  
 مذاہب حق و طرق وصول بمنزل مقصود وابواب در آمد خانه دین ایس چهار است و هر که راه  
 ازین راه با درست ازین درها اختیار نمود برآه دیگر فتن عبیث دیده باشد و کار خانه عمل را  
 از ضبط و ربط بپیر دل افگندان دازراه مصلحت بیرون افتادن است و اگر قصد سلوک طرق  
 دیع و احتیاط دارد کم اند مذهب واحد مختار را ایت که دلیلش احسن و قوی و فائدہ اش اعم  
 و اکم و احتیاط در اکثر داد و فر بود اختیار کنند و برآه رخصت و مسالمه و حیله اند وزی نر و دای طرق  
 متاخران است و شک نیست که این طریقہ حکم ترد و مضبوط تر است. وجحہ این طائفه این  
 است که همه متسلک بحکایت و سنت اند و مقتدر ایمان دین اند دیگر تعیین و تخصیص را وجه  
 چه باشد و نص فاسسلو آهُلَ الدِّينِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ و اشاره حدیث  
 اصحابی کا الجھوم فبا یهم افتديته اهتدیت نیز هم برین است یعنی چنان که شما  
 ندانید از اهل علم پسید و از ایشان بیاموزید و فرموده اصحاب من هم چو ستارگان اند و همه  
 راه نمایندگان اند و علماء دیگر را در حکم ایشان دانید و این مذهب بظاهر بانصاف نزدیک تر  
 نماید و فهم نزد ترا آید و لیکن قرارداد علماء و مصلحت دید ایشان در آخرین مال تعیین تخصیص مذهب  
 است و ضبط و ربط کاره دین و دنیا هم درین صورت بود اذ اول مخراست هر کدام را اختیار نماید  
 صورت دارد و لکن بعد از اختیار بیکے بجانب دیگر فتن بی تو هم سوئے ظن و تفرق و تشنب  
 در اعمال و احوال خواهد بود قرارداد متاخرین علماء برین است و هم مختار و فیہ الیحر اما درین  
 روزگار پسین مجتهدین که در فقه و حدیث و زندگی و عبادت مشهور و معروف بونداحدیث  
 و اقوال صحابه را تبع نموده و ناسخ را ز منسون و صحیح را از سیم جداست اختره تحقیق و تاویل آن فرموده  
 تطبیق و توفیق میان آن ها داده مذهبی قرارداده اند عوام مسلمانان را بلکه علماء را درین روزگار این  
 قوت و طاقت کجا است که این کار از دست ایشان آید. ایشان را بغیر متابعت مجتهدین  
 کردند و در پی ایشان فتن بسیلی نبود و چاره نه والعدم علیهم این کار متقدیمین محدثین ایسرا  
 بود و تحقیقت بی قیاس داجهتماد کار از پس نزد پا آخر دست باشند زدن ضرورت افتاد و  
 دلائل جمیت قیاس و وجوب عمل بدان در شرح خاتمه کتاب معلوم گردان اشاره اسرار تعالی و حکم

مجتهد بحقیقت حکم کتاب و سنت است ولکن چوں ایں حکم در آن جا پوشیده است و صریح نہ پس مجتهدان دین و امامان راه یقین آن حکم مکنونه و مستوره را بر منصبه ظهور آورده وایکا و استارت را به تصریح مبدل ساخته جزا هم الشرعاً لعنة خیر البحار.

وصل در اذیان بعضے مردم چنان درآمده که مذهب امام شافعی موافق حدیث است و ملوك طریقہ اتفاق داتباع در مذهب ایشان بیشتر است و مذهب ابوحنیفہ بنی برائے اجتہاد است و مخالف احادیث - ایں سخن غلط مختص است و جمل صریح - آخر نہ در اجتہاد حفظ کتاب اش و حفظ احادیث رسول اش صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت اقوال سلف شرط است و بے آن درست نیست. و چوں قیاس در اجتہاد آن امام عظیم راعظیم الشا اقدم و اسرق و مقدم و مسلم تمام امت است ایں گمان راجح نبود مانکر سبب و قوع دری و در طریق آن بود که بعضے محدثین که در مذهب امام شافعی بودند در کتابها که تصنیف کردند چنانچه مصانع دانند آن دلائل مذهب خود را تسع و شخص نموده جمع کردند و در احادیث مذهب خفی برآه طعن و جرح رفتند و اینها بے گوشہ تعصی بخواهند بود و اکثر ایشان بابی خفیفه بے گوشہ تعصی بباب شریعتی الشرعاً نظر در کتب خفیه که در دیار عرب مشهور است باید انداخت تا حقیقت حال منکشف گردد و دریں مذهب موایب الرحمۃ کتابے است شارح او التزام کرده است که دلیل او از آیات قرآن و احادیث صحیحین بیار در کتاب ہدایہ در دیار ما مشهور و معتبر ترین کتابها است نیز دریں وهم اندراختہ چه مصنف نے در اکثر بنا کار ببر دلیل معقول نهاده و اگر حدیثے آورده نزد محدثین خالی از ضعف نہ غالبًاً استغفال وقت آن استاذ در علم حدیث کم تر بوده است ولکن شرح شیخ ابن العامیم جزء الشیخی الجزاً ام تلافی آن نموده و تحقیق کار فرموده است و گفته اند که نزد نوی اے نزد امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوقها بود که احادیث مسموعه خود را در اسناد ضبط کرده و گفته اند که مشائخ او که از ایشان استماع حدیث کرده و رأیے جمع از صحابہ که از ایشان شنیده از تابعین سی صد کس بودند و آنها که از شے روایت مند نوی کرده اند پانصد کس اند و مجموع استاذان نے در علم چهار هزار کس اند و محییے آن را بر ترتیب حروف تہجی جمع کرده و چوں احادیث که امام شافعی بدال اخذ کرده و تمسک نموده است امام ابوحنیفہ بدال تمسک نه نموده و اخذ نہ کرده مردم گمان کردند که مذهب این مخالف احادیث است و حالانکه دریں جا احادیث دیگر است صحیح و قوی تراست از ای کردے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل تمسک نموده و بجهت آن احادیث کہ متمسک امام شافعی است  
تمسک وادہ و اکثر متمسک است اور صحیحین است و این معنی تفصیل بیان کرده اند و اثبات نموده  
اند. و فی الحقيقة مذهب حنفی جامع معقول و منقول است و بانانکه در اغلب اوقات و  
حوال عادت کریمہ آن امام آن بوده که در تفسیر و تبیین مذهب خود بجهت رعایت طبلع عامہ  
خلق که محبوب اند بر طابق معقول و منقول و تائید نقل بعقل اقتصار بر دلیل معقول کردے و لیقده  
تبییر و تشفیہ طباع ایشان در کشف و تبیین آن کو شیدے والا اصل تمسک استدلال اد  
بکتاب و سنت و اقوال سلف بود خود چه صورت دارد که بجز رجوع بکتاب و سنت  
و اجماع تمسک بقياس کند و حالانکه شرط عمل بدل عدم آن اصول است چنانکه در کتب  
اصول فقه بر مذهب ایشان مقرر شده است و ایں دلائل عقلیہ ایشان در حقیقت برائے  
تائید و ترجیح بعضی احادیث بر بعضی بموافقت و سے هر قیاس را لابداز احادیث آنچہ موافق  
بقياس بودارج است چنانکه کم در اصول فقه قرار یافته نہ آنکه قیاس در مقابل نص کردہ باشد  
و نیز حکم بصحت و ضعف احادیث در زمان متاخرین برخلاف زمان سابق است چه می تواند  
که حدیثی که در زمان ایشان صحیح باشد سبب اجتماع شرائط صحبت و قبول ورد آن که یکی واسطه  
بود بیان ایشان و حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پس از جست رواست دیگر که بعد از آن آمد  
ضعف پیدا شده پس از حکم متاخرین محدثین بعض ضعف حدیث لازم نیاید ضعف نماید در زمان امام  
ابو حنیفه مثلا و این نکته ظاہر است و از کلام بعض محققین که ذکر کرده اند که حکم بتواتر و شهرت و  
وحدت حدیث معتبر در صدر اول است و آن احادیث که در ای وقت از احادیث بوده  
و بعد از آن بوجود کثرت طرق برواج این علم دکثرت طالبان و جامعان که بعد از آن پیدا شده  
بمترتب شهرت رسیده باشد استینا سے بایس معنی تو ایافت دامام اعظم بجهت رعایت  
امتیاز و فوایض و کمال مغبوط و محسود عالم بود متاخرین شافعیہ را چه گوید که بعض متقدیں را  
نیز باک جناب حسد گونه بود در حقیقت هر که فاضل تر محسود تر شافعیان را این حال است  
اما امام شافعی را به بینند که پھر مدح اصحاب رئیسی کند و می گوید که الناس کلم عیال علی فقره  
ابی حنیفه رحمہ اللہ و درشان امام محمد بن شیبانی کریم که در ای حنیفه است فرموده که اگر  
اہل کتاب از یهود و نصاری تصانیف محمد رحمۃ اللہ علیہ به بینند بے اختیار ایمان آرندا ایام  
حافظ ابو محمد بن حزم گفتہ که اصحاب ابو حنیفه بمهیه متفق اند که حدیث هر چند اسناد او ضعیف بود

مقدمه ترد اوی تراز قیاس دا جهتاد است و می تابع حضرت نرسد عمل بقیاس نه کند و عمل بحیث با قسم از دست نده دا امام شافعی قیاس را بر چنین از اقسام حدیث مقدم دارد در این مقام تفصیل است مذکور در علم اصول فقه آنچه نظر باید کرد و از اقسام قیاس نیز جزو بقیاس موثر عمل نکند و قیاس تناسب و قیاس شبہ و قیاس طرد به نزد قیاس متردک غیر معمول بھاند و در حینه این موضع قیاس را با حدیث ترک داده دا امام شافعی عمل بقیاس کرده و اگر آن را ذکر کنیم سخن در از زی کشید و ابوحنیفه تقلید صحابی را در آنچه صحابی با جهتاد خود گوید و اجب داند و شافعی گوید یعنی رجال و نخن رجال مایشان در اجتہاد برای یکم و مارکم مجتهد ایشم مجتهد را تقلید مجتهد دیگر نرسد. نقل است که امام ابوحنیفه فرموده عجب از هردم است که می گویند او فتوی به رأی خود می دهد و حال آنکه من هرگز فتوی ندیم بدآنچه ماثور و مروی نبیست. و امام جعیة عبد الشفی بن المبارک ازوی نے نقل کرده که گفت آن چه از احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آید فی الرأس والعين قبول کنیم و آنچه از صحابه رسیده رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیز اختیار کنیم و از گفت ایشان نه برایم و لیکن چیزی که از تابعین باید ما و ایشان برایم بایشان مذاکحت کنیم و در تحقیق حق بحث و تفتيش نمایم. و از فضیل بن عیاض نقل است که اگر حدیث بر ابوحنیفه آمد می تابعت آن کردی و اگر از صحابه و قدما می تابع آمد می نیز برای متابعت واقع ایشان رفتے والا اجتہاد نمودی. در کتب نوشته اند که اگر مسئلله نزد قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمد می دست مرید بیاران خود در ای جمعت کردی و تحقیق و تفتيش نمودی پس از آن جواب رادی و یاران او عظامه دین و قدر اهل حدیث و فقهه و زند و ورع بودند رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. مجحان و معتقدان مذهب ابوحنیفه را رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم این قدر کافی است و اسلام. و صلی اللہ علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین ہ

## مکتوب بیت سوم بنام ملا حیدر شاہ صاحب پوندہ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اخوى اعزى ارشادى ملا سيد حيدر شاہ صاحب سلسلة ائمۃ العالیین عن اللافات الافتیة والبيانات الانفیتیة بمحترمته لذی القیامین

وامام القبّلتين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم .  
 از فقیر حقیر لاشتے دوست محمد که مشهور بسحاجی است کان اشتریه عوضا عن کل شی بعد از  
 سلام مسنون داشتیاً مثخون مطالعه نمایند الحمد للہ والمنة که احوالات فقیر تاھین تحریر  
 که هر قدر ہم ماہ ذی الحجه قرین سپاس بے قیاس منعم حقیقی علی الاطلاق است جلت نعماۃ رفت  
 آلامہ والمسئول من اللہ بسحانہ سلامتکم و عافیتکم و ثباتکم علی الشریعۃ المصطفویۃ علی صاحبها  
 الصلوۃ والسلام .

المرام انکه ایکا تے کہ آں صاحب در باب کیفیت زیارت سید المرسلین صلی اللہ  
 علیہ وسلم کردہ بودند قدر ازان در بیان کیفیت زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم  
 از وجوب و سنت و استحباب و قصد اصحاب کرام و سلف الصالحین بدرازیافت  
 ایں سعادت عظیمی و حیات انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام در قبور شریف و توسل استمداد  
 از جناب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجھا لا بزرگاستہ می شود .

بدانکہ زیارت سید المرسلین با جماعت اہل سنت و جماعت از سلف و خلف قول او و  
 فعل از افضل سنن دا کدستحبات است . قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ می گوید ،  
 زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے است مجتمع علیہما وفضیلته است مرغب فیہما و  
 بعضے از علماء مالکیہ بوجوب آں رفتہ اند دیگران تاویل ایں قول سنت فریب واجب  
 کردہ گویا مراد سنت موکدہ مثل واجب است از برائے تاکید و اکثر علماء ہر انداز کہ سنت  
 زیارت بعد از اداۃ حج است . قاضی حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ از مشاہیر علماء شافعیہ  
 است می گوید چوں ان حج فارغ شود باید کہ وقوف بہ ملتمم نماید و دعا کند بعد ازان بحمدیہ شریفہ  
 آپرین زیارت قرب مبارک سر در کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشرف گردد . قاضی ابی طالب  
 رحمۃ اللہ علیہ گوید کہ بعد از حج و عمر مستحب است کہ قصد زیارت آں حضرت کند و حسن  
 بن زیاد از امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت می کند کہ احسن مرحاج راست کہ اہتدی ایکل کند  
 و مناسک حج بجا آرد بعد ازان بحمدیہ آید دزیارت قبر شریف کند و زیارت آں حضرت نزد  
 حنفیہ از افضل محبات و مندوبات است دا کدستحبات قریب بدرجہ واجبات و  
 علماء غاصب اربعہ بتقدیم حج تصریح کردہ اند و بعضے از سلف با وجود انکہ طریق حج کرنے  
 از جانب مدینہ بود اول قدوم مدینہ منورہ از لوازم وقت شہر ند و بالجملہ بعضے از تابعین را در زیارت

مریمہ قبل از کش شریفہ معظمہ اختلافی است. و تاج الدین بیکی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت قربت زیارت آنحضرت را باصول اربعہ مشترح بیان کرده اما الكتاب نقوله تعالیٰ وَلَوْاَنْهُمْ  
 اَذْظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاءُوكَفَّا سُتْغَفِرُوا اللَّهُ وَكُفَّةً اَسْتَغْفِرُ ایں آیت دلالت دارد  
 برجست و ترغیب و حضور در درگاه رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم و سوال مغفرت برائے  
 خود از حباب اجابت مآب و طلب استغفار از نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایں مرتبہ عظیم است  
 که ابدًا انقطاع پریزیست از جهت استوار حالت موت و حیات شبہت سُر رکائزات  
 و ثبوت استغفار ازان حضرت هر ایست را بعد از موت و جمیع علماء از ایں آیت شریفہ  
 استوار حالت حیات و ممات فهم نموده اند تادر آداب زیارت حکم کرده و گفتہ اند که ایں  
 آیت شریف را بخواند وَلَوْاَنْهُمْ اَذْظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاءُوكَفَّا سُتْغَفِرُوا اللَّهُ  
 و طلب استغفار کند. و حکایت اعرابی است که بعد از رحلت آنحضرت بزیارت آمد  
 ایں آیت شریف مذکورہ نخواند. و ایں حکایت اعرابی مشهور است و جمیع از بابِ مذهب  
 اربعہ که تصنیف مناسکِ حج کرده اند ایں حکایت آورده و احسان نموده از ائمہ اعلام  
 باس اندیدے که دارند روایت آن کرده اند. و محمد بن حرب ہلکی رحمۃ اللہ علیہ گوید کہ بعدهی  
 آدم وزیرت قبرنی صلی اللہ علیہ وآلہ و میر کرم در مقابل ششم ناگاہ اعرابی آمد و زیارت کرد  
 و گفت یاخیر الرسل حق تعالیٰ کتابے بر تو فرستاده است صادق، رفعے فرموده است  
 وَلَنِ اَنْهُمْ لَا ذُلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاءُوكَفَّا سُتْغَفِرُوا اللَّهُ الْآیَة و من بر تو آمده ام  
 مستغفار اذ نوب خود مشفع بجاہ تو و بگریت و ایں بیت خواند

يَا خَيْرِ مَنْ دُفِنَتْ بِالْبَقْعَةِ اَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمَرُ  
 نَفْسِي الْفَدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاحِكَنْتُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُنُونُ وَالْكَرْمُ  
 بعد ازان او رفت. آنحضرت را بخواب دیدم مے فرمایند کہ آن مرد رادر یا ی پیش ارت د  
 کی حق تعالیٰ بشفاعت من اور امغفرت داد و گناہ ان اور انجشید. و حافظ عبد اللہ رحمۃ  
 اللہ علیہ در مصباح الظلام از روایت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ مے آمدند،  
 بعد از سر روز از دفن آن سر در که گز شتمہ بود اعرابی آمد و خود را بر قبر شریف اندراخت  
 و خاک پاک آنحضرت بر سر خود رخخت و گفت یا رسول اللہ آں چ تو از خدا شنیدی  
 ما از تو شنیدی کیم و آپنے از خدا یاد گرفتی ما از تو یاد گرفتیم و اذال حملہ آپنے بر تو آمده ایں آیت است

وَلَوْ أَكْحُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَاءَ وَلَكَ فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ وَمَنْ بَرَخْوْ ذَلِكَ كَرْدَه امْ دَنْزَدْ تو  
آمْهَامْ تَاهِرَأَيْهَ من استغفاركني . از قبر شریف ندا آمر و گفتہ شد قد غفرلک . و در  
ثبوت زیارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احادیث شریف بسیار آمده اند بعضه بصرع  
لفظ از زیارت قبر شریف و بعضه بالفاظ دیگر . داک که بصرع آمده است این است  
حدیث اول ، من زار قبری و چیزی له شفاعتی .

حدیث ثانی ، من زار قبری حلّت له شفاعتی .

الحدیث الثالث ، من جاء في زائر لا تعلم له حاجة لا زیارتی کان حقاً على ان  
اکون له شفیعاً يوم القيمة .

الحدیث الرابع ، من جر فزار قبری بعد وفاتی کان مکن زارهی في حیاتی .

الحدیث الخامس ، من جرح دلیل زیرنی فقد جفانی .

الحدیث السادس ، من زارهی الى المدینة کنت له شفیعاً و شهیداً .

و در رایت آمده . من زار قبری کنت له شفیعاً و شهیداً .

الحدیث السابع ، من زارهی متعملاً کان في جواری یوم القيمة و من مات في احد  
الحضرمین بعثه الله من الأئمین یوم القيمة .

الحدیث الثامن ، من جر حجۃ الاسلام زار قبری و غزا غزوة و صلی في بیت  
المقدس لمیسله الله عز وجل فیما افترض علیه .

الحدیث التاسع ، من جر الى مکة ثم قصدتی في مسجدی کتبت له بختان ببرستان .

الحدیث العاشر ، من زارهی میتما فیما زارهی حیاد من زار قبری و چیزی له  
شفاعتی یوم القيمة .

الحدیث الحادی عشر ، من علی رضی الله عنہ قال النبی صلی الله علیہ وسلم  
من زار قبری بعد موته فکامما زارهی في حیاتی و من لعیل زیر قبری فقد جفانی .

الحدیث الثاني عشر ، عن علی رضی الله عنہ من سائل لرسول الله صلی الله علیہ  
و سلم الد رحمة الرفیعة والوسیلة حلّت له شفاعتی یوم القيمة و من زار قبر رسول  
الله صلی الله علیہ و سلم کان في جوار رسول الله .

از جمله احادیث که مثبت حیات انبیاء است صلوة اللہ علیہم بعد از عموم نصوص قرآنی

در حیات نمره شد، و مقاتلین فی سبیل الشرایح حدیث است که ابو علی بن قل ثقات از روایت نسیب بن مالک می آرند قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم الانبياء احياء فی قبورهم يصلوون - و آپنے شخصوص اثبات حیات سرور کائنات کنداین حدیث است که مشهور و معروف است فامن احد یسیلم علی الارض الله علی روحي حتى ارد علی السلام -

الحدیث الثالث عشر، در روایت از احمد بن حنبل رحمه اللہ آمدہ است که ما من احد یسیلم علی عن قبری الا ارد الله علی روحی حتی ارد علیہ السلام  
الحدیث الرابع عشر، از عمر رضی الله عنہ من صلی علی عن قبری سردت علیه ومن صلی علی فی مكان اخر بلغونیم -

الحدیث الخامس عشر از ابو هریره رضی الله عنہ است مرفوعاً فامن عبده یسیلم علی عن قبری الا وکل الله به املکا یبلغنى وكفى له اجر آخرتہ و دنیا کا وکنْت له شهیداً و شفیعاً يوم القيمة -

حدیث السادس عشر در کتاب بدراک فره از حدیث عائشہ رضی الله عنہا روایت می کند که فامن رجل یزو ر قبر الخوبی فی جلس عدن الا استانس به حتی یقوم وابن ابی الدینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ از ابو هریره روایت می کند که اگر بر قبر اشتانے بگذرد می شناسد و اگر سلام کند رد می کند - سهوی رحمۃ اللہ علیہ می گوید که احادیث درین باب بسیار است - مازمی در توثیق عرایی الایمان از سلمان بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ می آرند که گفت آن حضرت صلی الله علیہ وسلم را در خواب دیدم پس پرسیدم یا رسول اللہ ایشما که بزر یار مت شمامی آئند و بر تو سلام می کند می شنوی فرمود نعم دارد علیهم وابن شجار از ابراہیم یستار رحمۃ اللہ علیہ روایت می کند سالی از سالهان حکم کردم و بزر یار مت سید المرسلین بحمد نیمه آدم چوں به قبر شریعت رسیدم وسلام کردم آواز شنیدم که می گوید وعلیک السلام - و امثال آن از اولیاء اللہ وصلحاء امت بسیار منقول است - واما در حیات انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام در قبور با تفاوت علماء در حیات آن حضرت صلی الله علیہ وسلم بعد از وفات آنچه شک و شبیه نیست دیگم چنین سائر انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام در قبور زندگیات کامل تراز حیات شد، که در قرآن مجید است و آن حضرت صلی الله علیہ وسلم

علیه و لم سید الشہداء است . و در حدیث شریف آمده است علی بعد وفاتی کعلی فی حیاتی رواه حافظ ابن عدی رحمة اللہ علیہ فی الکامل و ابو عیلے رحمة اللہ علیہ بہ نقل ثقات از انس بن مالک رحمة اللہ علیہ روایت مے آرند قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء اشیاء فی قبورهم یھلوون و نیز بهقی رحمة اللہ علیہ مے گوید کہ شواہد او ازاحدیث صحیحہ بیارہ است و ابو منصور بغدادی رحمة اللہ علیہ مے گوید کہ شواہد او ازاحدیث صحیحہ بیارہ علیہ و لم حی است بعد از وفات و مسروقی شود بطاعات امرت . و احساد انبیاء علیہم السلام بوسیدہ نبی شوندر قبوره و زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقرب الی اللہ است لعز و جل ، و کدام تقرب و توسل ازیں تقرب اولی و اکمل خواہد بود کہ وصول و حصول زیارت او صلی اللہ علیہ وسلم تقرب بر رب الغلمان است . آیت شریفہ منْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ الآیة . و زیارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمات حکم ملائمت او دارد که در حالت حیات او صلی اللہ علیہ وسلم بود . و احادیث شریف کہ قبل ازیں مذکور شده دریں معنے صریح آنداز جملہ ایں ہا ایں حدیث بود کہ من جحمد پیر نی فقد جفا نی وجفا باں حضرت بسیار بے ادبی است و بے پردائی از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و زرست پس ترک آن زیارت مبارک موجب شغل خاطر و تفرقہ باطن مے گرد بلکہ نزد ایں حقیر گناہ کبیرہ است . و حال آن کسان نزد حق تعلیے چہ باشد کہ از زیارت نبی خود انکار دارند اصلاب نزیارت مشرف شوند عیاً ذا بال اللہ تعالیٰ من نہ الا اعتقاد السور . وقت کے نزیارت مبارک مشرف شوند بصفت چیا و وقارسلام گویند کہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی الکریم و رحمة اللہ و رکاته السلام علیک یا ائمۃ النبیین السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذک السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذک

و اما سفر برائے زیارت قبر شریف و شد رحال بقصد زیارت زیارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعادتی است عظیمی . و اصحاب کرام رضی اللہ عنہم و سلف الصالحین رحمة اللہ علیہم بجهت زیارت سید کائنات بسیار آمده ازال جملہ حکایت آمدن بلال مودن است رضی اللہ عنہ در زمان خلافت عمر رضی اللہ عنہ از مشام بمدینہ شریفہ آمد ابن عساکر رحمة اللہ علیہ از روایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ مے آرند کہ بلال رضی اللہ عنہ آنحضرت

بخار و دید که فرمایند اے بلال ایں چہ جفا است که ہیچ بزیارت نمی آئی۔ بلال ہم دران  
ساعت را حلہ خود را سوار شد و قصد مدنیہ طبیہ نمود چوں بحمدیہ منورہ رسیدہ بہ قبر تشریف  
رسیدگری کہ درستے نیاز، نکاک مایید امام حسن و امام حسین را دید کہ اذ جھرہ برا آمد نداشت ان لہ  
در کنار گرفت و بر سر درستے مبارک ایشان بوسہ راد و ہم دران زمان قریب فاطمۃ الزہرا  
رضی اللہ تعالیٰ عنہا بدار بقار حلست فرمودہ بودند۔ مردم خواستند کہ از بلال رضی اللہ عنہ اذان  
شنوند گفتند کہ اگر امام حسن و امام حسین بفرمایند اور اذان چارہ نخواہ ہر لود والاشے بعد اذان  
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برائے ہیچ کس اذان نگفت و لہذا چوں ابو بکر صدیق رضی بعد اذان  
وفات آں حضرت از فی خواست کہ برائے او اذان گفته باشد۔ بلال گفت ما اما کہ تو مرا  
بزر خیری و در راه خدا آزاد کر دی ایا برائے خود کر دی یا برائے خدا۔ فرمود برائے خدا کہ مگفت  
اکنوں نیز برائے خدا مرارہا کن تاب طور خود با شم مرا طاقت وزہرہ آں نیست کہ بعد از رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم برائے کس دیگر اذان گویم پس بشام رفت و از آں جا بقصد زیارت بحمدیہ  
آمد۔ الغرض چوں امام حسن و حسین باعثے فرمودند کہ اذان گوید بسط مسجد برج محلے کہ در زمان آں  
سرور می استاد برآمد چوں گفت اللہ اکبر اکبر غریواز مردم بہ خواست کہ تمام مدینہ  
در جنبش آمد چوں گفت اشہدان لا الہ الا اللہ ترکیل زیادہ شد و گردیہ و زاری و فریاد مردم  
زیادہ تر شد و چوں فرمود اشہدان محمد رسول اللہ دیگر قیامتے قائم شد و ہیچ از مردمان و  
زنان صغیر و کبیر در مدینہ شریفہ کاند کہ نہ برآمد و در گریہ نشد کو یا کہ روز مصیبت سید المرسلین  
صلی اللہ علیہ وسلم تازہ شد و گویند کہ از غاییت غلبہ واستیاق آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذان  
راتنم نتوانست کر دو فرود آمد۔ کذا ذکر فی غنیۃ الطالبین۔

آورده اند کہ چوں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام کر دو بہ اہل بہیت المقدس  
مصالححت نمود و کعب اجبار آمد و بشرفت اسلام مشرفت شد عمر بن الخطاب را باسلام او  
غاییت فرح و سرور دست داد و در وقت رجوع باوے گفت اے کعب خواہی کہ باما بحمدیہ  
آئی و زیارت سید انبیا کنی گفت نعم یا امیر المؤمنین نعم الفضل ذلک۔ بعد از قدوم بحمدیہ  
مطہرہ اول اول کانے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کردا بتداء بسلام پیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم۔ و عبد الرزاق  
با سناد صحیح روایت ہی آرد کہ ابن عثیر چوں از سفر قدوم می آورد اول بہ قبر شریف می  
رسد و می گفت اسلام علیک یا رسول اللہ اسلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا ابا

و در موظام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیز ایں روایت مذکور شده است و شخصے از نافع مولیٰ ابن عثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ پر سید و تودیدی کہ ابن عمر بر قبر شریف نے استاد فی گفت السلام علی النبی السلام علی ابی بکر السلام علی ابی گفت نعم۔ و در مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ از ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت آمده کہ گفت از سُنّت است کہ به قبر شریف نبوی از قبل قبلہ بیانی دپشت بقبلہ کنی دیگوئی السلام علیک ایها النبی در رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

داتا توسل واستشفاع بحرمت پیدا رسول واستعانت واستمداد، جاد و جناب و صلی اللہ علیہ وسلم پس فعل انبیاء و مسلمین و سیرت سلف و خلف صالحین است پھر پیش از ای وقت که روح پاکش بیاس جسمانیہ پوشید و پھر بعد از ای کم در حیات ذمیویہ و ہم در عالم بزرخ در عرصات قیامت که انبیاء، رسول راجح منطق و تاب دم زدن نباشد فتح باب شفاعت اولین و آخرین راست فرق بحار نعمت و مشمول انوار رحمت کرده اند در استمداد از جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در چهار موطن اخبار و آثار پور و دیپوستہ اما ادل توسل با وسیط پیش از نشانہ انسانیت و دامہ خلقت است از جملہ احادیث و اخبار که در ان وارد شده ایں حدیث است از عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ علماء حدیث تصحیح آکی کرده اند کہ چوں از آدم صفحی علیہ السلام آں خطیب سر بر زدا زیر اے اعتذار و توبہ ای گفت یا رب اسٹاک بحق محمد ان تغفری۔ از درگاہ مجید فرمان آمد یا آدم چکونہ شناختی محمد را صلی اللہ علیہ وسلم و ہنوز جو ہر دش را در صدف جسمانیت در نہ آوردہ گفت خداوندانی دانی، روزے کے کمرا بہ یہ قدرت خود پیدا کر دی منع روح علوی در قلب بشریت من نمودی سر بر داشتم و بر قوائم عرش نوشتہ دیدم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ از ای روز شناختم کروے بندہ ایست تراکہ محبوب ترین خلق است نزد تو و مقرب ترین حضرت عزیزانہ فرمان آمد کہ چوں تو اور درگاہ من و سیلہ مغفرت آور دی گناہ ترا بخشیدم۔ یا آدم الگ محمد نے بود ترا پیدا نے کر دم۔ و در بعضے روایات آمده کہ کلماتے کہ آدم صفحی اللہ از درگاہ رب العزت تلقین نمودہ و سبب توبہ و مغفرت او گشته چنانچہ منطق آیت کریمہ فتنکی آدم مِنْ سَرِّه کَلِمَتَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ است ایں بود الہی بحرمت محمد و آلہ اغفرلی سبکی گوید رحمۃ اللہ علیہ چوں توسل با عمل صالحہ با وجود انکے فعل ایشان است و لقصور و نقصان موصوف جائز باشد و دربارگاہ رحمت مقبول و مستجاب گرد تشفع بہ پغمیر خدا کہ محب و محبوب است

بطریق اولی بود۔ صاحب قصیدہ بگردہ می گویا ہے

یا اکرم الرسل علی من الودبہ

سوالٹ عند حلول الحادث العمر

اما الثاني کہ توسل بجناب اوست در دنیا در مرمت حیات فیصلی اللہ علیہ وسلم بیش تر ازان است کہ در حصر آپ۔ در خبر است کہ مردے ضریر البصر پس آں حضرت آمد و عرض نمود کہ یا رسول اللہ دعا کن تا خدا اخیر و عافیت نصیب من کن، فرمود اگر بصارت خواہی دعا کنم تا حاشم تو بیناگر دد اگر اجر اخست خواہی صبر کن کہ آں بہتر است برائے تو، گفت دعا کن یا رسول اللہ! فرمود تا کہ وضو کن دایں دعا را بخواہی اللہ ہم انی اسئلائی و آتی وجہی الیک بن بیٹھ ہجہن بھی الرحیم تے یا سعیہ میں انی اتوچہ بک الی سبیلی فی حاجتی هنلکا لتقاضی لی اللہ ہم فشفعتہ فی۔ تزدی لگفتہ است، نہ احمدی ش صحیح غریب ذہبی نیز صحیح آں کرده بازیادت ایں عبارۃ در آخر حدیث کہ فقام و قد بہد البصر۔ فی روایۃ ففعل الرجل فبرء و اخبار در باب توسل و استهداد ارباب حاجات بجناب سید کامن است صلی اللہ علیہ وسلم مثل سمعۃ رزق و حصول اولاد زیروں مطروہ رخائی عیش و امثال آں بیمار است۔

واما الثالث کہ توجہ و توسل باوست صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بعد ازا وفات نیز در وسے آثار درود یافتہ۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ در صحیح کبیر از عثمان بن حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وایہ سے آرد کہ مردے بود کہ اور نزد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاجتے بود کہ وانمی شد و عثمان رضی اللہ عنہ اصلاح بحال او نظر و التفات نمی گھاٹت۔ آں مرد حال خود را عثمان بن حنیف بُرد صوت علاج جھست، گفت بمن تو ضار و مُضور کن و مسجد در آئی و دور کعت نماز بگزار و بگو اللہ ہم انی اسئلائی و آتی وجہ الیک بن بیٹھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحیم یا سعیہ انی اتوچہ بک الی سبیل فی قضی لی حاجتی بعد ازاں حاجت خود را عرض کن۔ آں مرد برفت بدآنچہ وسے فرمودہ بود عمل کرد بعد ازاں بر در عثمان بن عفان رضی آمد در بان پس آمد و دستی اور اپنگفت و نزد عثمان رضی آرد وسے اور اپر فراش خاصہ سٹاندرد حاجت پر سید ہرچہ حاجت او بود روا کر دو گفت بعد ازاں ہرچہ حاجت کہ ترا باشد بگو نار و اکنم۔ آں مرد خوش حال پسیں عثمان رضی برآمدہ نزد این حنیف رہ رفت دو گفت جزاک اللہ خیر امگر تو چیز ہے بعثمان در باب قضاء حاجت من گفتی دایں حنیف ساخت و پسیں ازیں اصلاح من التفات نمی کرد دو گفت واللہ بارے

من ایسیح نہ گفتہم بچر آنکہ رسول خدا را دیدہ بودم کہ ضریبہے پیش نہیے آمود عاخواست تا پشم وے  
 بیناگر در دو تمام ایں حدیث ساتاں سوق نمود پس برآں قیاس نمودم کہ تو سل بوے صلی اللہ  
 علیہ وسلم موجب قضاء حاجت و سبب نجاح مرام است. و قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ در مسجد رسول اللہ  
 علیہ در کتاب شفاء مے آرد کہ در میان ابو جعفر غلبیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ در مسجد رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ واللہ وسلم مناظرہ افتار است شاید ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ در اثنائے سخن آواز خود بلند کرد  
 مالک رحمۃ اللہ علیہ گفت یا امیر المؤمنین در مسجد پیغمبر خدا آواز چرا بلند می کنی و حق تعالیٰ در کتاب  
 خود باب ادب می نماید می گوید کلا ترک فَعُوْنَ أَصْنَقَ أَنَّكُمْ فَوْقَ صَنْوَتِ النَّبِيِّ الْأَمِيَّةِ وَقَوْمَ دِيَّجَ  
 رامح مے کند و مے فرماید إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُوْنَ أَصْنَقَ اهْمُرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ  
 الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْرِيْدِ وَصَرَمَتْ بِهِمْ بُرْخَادَ از موت مثل حرمت است  
 صلی اللہ علیہ واللہ واصحابہ وسلم در حیات. خلیفہ را بگفتہ او اثر سے ورنے پرید آمد و در خصوصی واستکا  
 فروشد گفت یا با عبد اللہ در وقت دعا توجہ بقبلہ کنم یا رئے بر رسول اللہ آرم گفت چراوے  
 از پیغمبر گردانی و رونے و سیلہ نیست و سیلہ پدر تو آدم صفحی اللہ نزد خدا عزوجل استقبال  
 پر پیغمبر کن و طلب شفاعت از کے کن تاشفیع ٹوکر در در باب ادب زیارت استحباب  
 استقبال بدال حضرت و تو سل پر د دعا در حضرت نے و رعایت غایبت ادب و نہایت  
 خصوصی مذکور گردان شاه اللہ تعالیٰ. در ذکر قبر فاطمہ بنت اسد اتم علی بن ابی طالب  
 کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مذکور شد کہ آن حضرت در قبر اور آمد و گفت بحق نبیت والانبیاء اللذین  
 من قبلی دریں حدیث دلیل است بر تو سل در ہر دو حالت نسبت باں حضرت صلی اللہ  
 علیہ واللہ وسلم در حالت حیات نسبت انبیاء علیهم السلام بعد از وفات وچوں تو سل بانبیاء  
 بعد از وفات جائز باشد بستید انبیاء علیہ افضل الصلة و اکمل الحیات بطریق اولی جائز نا شد  
 بلکہ اگر یا ایں حدیث تو سل با ولیا خدا نیز بعد از وفات ایشان قیاس کند و رسمیت مگر آنکہ  
 دلیلے بر تخصیص حضرات سُل صلوٰۃ الرَّحْمٰن علیہم قائم شود نیز برایں مدعا دلیل است آنکہ ابن ابی  
 شیبہ رحمہ اللہ سند صحیح آورده است کہ در زمان عمر رضی اللہ عنہ قحطے افتاد شخصی بقبر شریف  
 نبوی آمد و گفت یا رسول اللہ است حق لا متك فانہم قد هلکوا آن حضرت در خواب آمد  
 در فرمود بہ و بعمر پیش ده کہ باران خواہ آمد و ایں نوع تو سل طلب دعا است ازان حضرت از  
 پر در دگار خود تا ایں حاجت مقتضی گرد چنانچہ در حالت حیات بود کم چنانچہ مضمون عبارت یا

محمدانی توجیت بک ایے ربی فی حاجتی یقظی لی مُشرافت بدار فافم۔ وابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کر دکہ درد تھے اہل مدینہ را قحط سندید رسید شکایت بعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہر دند۔ فرمود بقبر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیامید و در تکھے از شے بجانب آسمان بکشائید تامیان شے و آسمان حائل نباشد کم چنان کردند کہ نے اشارت فرمود باراں بسیار شد و امر شے رضی اللہ عنہا بکشادن در تکھے رمزے واضح است بآنکہ موجب فتح باب مطلوب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از درگاہ رب العالمین جل جلاله در اذن قبل است سوال سائل از حضرت نے که گفت اسئلہ مرا فقتك فی الجنة یعنی سوال می کنم از حضرت تاکہ از پروردگار خود درخواست کنی و شفاعت فرمائی تا من بسعادت مرفقت تو درجت منشرف گرداند۔

واما رابع که توسل بسرور انبیاء است در عرصات قیامت بوسیله شفاعت۔ پس با حدیث متواتره ثابت است و اجتماع علماء برآں منعقد در باب توسل بصالحین باعتبار علاقه که ایشان را است بجانب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز اخبار و آثار آمد و چنانچه قصہ استقاده عمر بعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اثبات آں مے کند۔ در خبر صحیح ازان بن مالک رحمۃ اللہ علیہ آمدہ کہ چوں قحط سال مے شد و امساک باراں روئے می نمود عمر خداوند استقاده توسل بعباس مے کرد عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مے گفت خداوند اپیش ازیں چوں قحط مے شد توسل بہ پغیر تو مے کرد یکم دتوآب مے فرستادی الکنو توسل بعجم پغیر تو مے کنیم پس بفرست برائے ما آب۔ و در روایتے از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آمدہ کہ عمر گفت رضی اللہ عنہ خداوند اما استقاده مے کنیم بعجم پغیر تو و استقاده مے کنیم بہ پیرے و عباس رضی اللہ عنہ در دعا خود گفت خداوند ایں قوم توجہ بکن آ در دندا ز جست نہیت کہ مراد پغیر است خداوند امر انزو ایشان ستر مندہ مکن۔ و درین گفتہ است عباس بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی لمب

بعی سقی ادد، الحجاز و اهلہ

حشیة یستسقی بشیبة عی

و در نیل مطابق و فوز بکارب کہ نزد استفادہ و طلب از مرقد منور سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ محتاجان و مسکینان را روئے نموده است اخبار و آثار بسیار آمدہ۔ و محمد بن المنکر رحمۃ اللہ علیہ گوید مردے پیش پدر من هشتاد دینار و دیعت نہاد بکھادرفت واذن داد که اگر ترا حاجت افتاد

ازیں باخراج کن۔ پدرم نزد احتیاج آں راضح کرد۔ چوں آں مرد باز آمد مبلغ کے نہادہ بود طلب کرد۔ پدرم درادائے آں درماند و باشے گفت کہ فردا ہیاتا جواب تو گویم۔ ایں بگفت و شب درمسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوئت کرد و نہ مانے درحضور شریف و گاہے پیش منبر استغاثہ می نمود و فریاد کے کرد۔ ناگاہ در تاریخی شب مردے پیدا شد و صڑہ ہشتاد دینار بدست نے داد بامداد مبلغ آں بداد واڑ زحمت مطالبة دین خلاصی یافت۔

و امام ابو بکر بن المقری رحمۃ اللہ علیہ گوید کہ من و طبرانی و ابو شیخ ہرسہ در حرم شریف مصطفوی بودیم۔ جو رع بر مغلبه کردہ بود و دو روز بھیں حال گذشتہ چوں عشا در رسید بحضور قبر شریف رقیم و گفتہم یا رسول اللہ الجو ع ہمیں کلمہ گفتہم و بہریم و من و ابو شیخ بخواب رقیم و طبرانی شستہ انتظار چیزے می برد۔ ناگاہ یک مرد غلوی آمد در بیرون باشے دو غلام بدست ہر کدام زنبیلے در و چیز کثیر از طعام و تمر و خبز بہشت و بابا بخورد و آپنے از مانند ہم پیش مانگداشت و گفت اے قوم مگر شما شکایت پیش یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرد یا بهمیں ساعت آں حضرت رجھاب ریم کہ مرا فرمود تا چیز بر شما حاضر اور دم۔

وابن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ سے گوید کہ سہرینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم و یک دو فاقہ بر من گذشتہ بود بہ قبر شریف استادم و گفتہم انا ضیيفک یا رسول اللہ بخواب پیغمبر خدارادیم رغیفے بدست من داد نصف را ہم در خواب خوردم و چوں بیدار شدم نصف دیگر در دست من باقی بود۔

وابو بکر رحمۃ اللہ علیہ گوید کہ سہرینہ در آدم در پنج روزہ من گذشت کہ طعام نچشمید م روز ششم بر قبر شریف رقیم و گفتہم انا ضیيفک یا رسول اللہ بعد ازاں در خواب می بینم کہ سر در انہیا می آید و ابو بکر صدیق بر میں دعکر بر شمال و علی بن ابی طالب در پیش۔ علی کرم اللہ وجہہ م ر می گوید کہ بر خیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمد رقیم و میان دو پشم مبارک او بوسہ دادم رغیفے بمن داد خوردم چوں بیدار شدم ہنوز زیادہ از شے بدست من بود۔

احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ گوید کہ سے ماہ در بادیگشتہ بودم و پوست بدن من بہہ ترقیہ بحدینہ آدم دم و بر آں سرور و صاحبیہ سلام گفتہم و بخواب رقیم۔ آں حضرت رادیم کہ می فرماید احمد آمدی چھر حال داری گفتہم انا جائع و انا فی ضیافتک یا رسول اللہ فرمود دست بکشاد در کم چند در دست من نہاد بیدار شدم و در کم در دست من بود نہ بہازہ رقیم دفطیر و فالود خریم

و خود مم و بادیه در شدم . دامثال این حکایات بسیار است ۵  
 حاشا ان یگر هر السراجی مکار من  
 او برجع الحمار من غیر محترم

و پیشنه که در حدیث شریف آمده که اول مخلوق الله نوری در حدیث دیگر آمده  
 آن من نور ادله و المخلق من نوری هرگاه که حق سبحانه تبارک و تعالیٰ جمیع مخلوقات کائنات  
 را بقدرت کامل خود از نور مبارک ایشان بیافرید پس ایشان اصل موجودات آله پس بهین  
 سبب که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل جمیع خلائق شد محققین علماء بنا بر آن عکم کرد که آنکه  
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث است بکافه مخلوقات و سائر موجودات نمخصوص  
 بجنس و نسل و ملائکه بلکه فی رسم رسول کل عالم است حتی نباتات و جمادات . صلی اللہ علی خیر خلقه  
 محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتك يا رحمۃ الرحمین :

## مکتوب بیت چهارم بنام ملا عطا محمد آخوندزاده حب باسم الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد فضیلت پناه شرافت دستگاه برادر طریقہ  
 شریفه ملا عطا محمد آخوندزاده سلمه اسر تعالیٰ .

از نقیر حیران لاثئے دوست محمد که مشهور به حاجی است کان اسرع عضاع عن کل شئ . پس از سلام  
 سنون و دعوات ترقیات مشحون مطالعه نمایند الحمد لله والمنة که احوال ایں نقیر بفضل دکرم  
 قادر قدر عز شانه قرآن سپاس بے قیاس منعم حقیقی است بعل جلاله والمسئول من العبد سبحانه  
 سلام شکم و عافیتکم و شباتکم علی الشریفۃ المرضیۃ علی صاحبها الصلة والسلام .

المرام آنکه سلسله افضليت داولوسيت ادائے سنن و نوافل بعد اداء صلوة مفروضه  
 و مكتوب به بجماعت در خانه از کتب فقه چنانچه هدایه و در مختار و از نفس کتب صالح سنته د  
 احاديس شریفه که نزد نقیر بمهه موجود اند چنانچه صحیح بخاری و صحیح مسلم و جامع ترمذی و سنن ابن  
 داود و صحیح زیارتی و ابن ماجه و مشکوہ مصنایع برای اطمینان خاطر نوشته فرستادم امید که خواهد  
 رسید .

والافضل في عامته السنن والنواوافل اداهَا في المنزل هو المرئى عن النبي صلى الله عليه وسلم هدایة في باب ادراك الفريضة <sup>٢</sup> والاقل في النواوافل غير التراويه المنزل الا لخوف شغيل عنها در المختار في باب الوتر والنواوافل بباب التطوع بعد المكتوبة <sup>٢</sup>

احل شامسته قال حنثى يحيى بن سعيد عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدةتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدةتين بعد العشاء وسجدةتين بعد الجمعة فاما المغرب والعشاء ففي بيته <sup>٢</sup> بباب الركعتين قبل الظهر حد شاسليمان بن حرب قال حد ثنا حماد بن زيد عن ابيه عن نافع عن ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد ركعتين بعد المغرب في بيته ركعتين بعد العشاء في بيته الحديث صحيح البخاري في الجلد الاول من كتاب الصلوة بباب التفل بالليل والنهار <sup>٢</sup> وحد ثنا يحيى بن يحيى قال انا هشيم عن خالد عن عبيد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلى في بيته قبل الظهر امر بعاثر يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل في صلواتهن الحد في صحيح المسند في الجلد الاول <sup>٢</sup> باب ما جاء في حادثة ركعتين بعد المغروب القراءة فيها وباب ما جاء في حادثة يصليهما في البيوت حد ثنا احمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهيم عن ابيه عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته بباب ما جاء في فضل صلوة التطوع في البيوت حد ثنا هشيم بن بشار ناجي بن جعفر ناجي عبيد الله بن مسعود بن ابي هند عن سالم رضي الله عنه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلوة تقدم في بيته لا المكتوبة الجامع الترمذى في الجلد الاول <sup>٢</sup> باب صلوة الرجل التطوع في بيته حد ثنا احمد بن صالح ناجي عبيد الله بن وهب اخبرني سليمان بن بلاط عن ابراهيم بن ابي المنصر عن ابيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوة المساء في بيته افضل من صلوتها في مسجدى هذا الا المكتوبة سنن ابي داود <sup>٢</sup> باب ركعتي المغرب اين تصليان حد ثنا ابو يكربن ابي الاسود حد ثنى ابو مطراف محمد بن ابي الوزير ناجي بن منسى الفطر عن سعد بن اسحق بن كعب بن عجرة عن ابيه عن

حدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ  
قُضِيْاً صَلَوةُ الْمَغْرِبِ أَهْرَبْسِبْحُونَ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ هُنَّ لَا يَصِلُّونَ الْبَيْوَتَ سَنَنُ أَبِي دَاوُدٍ ١٢  
أَخْبَرَنَا شِيفَنْ بْنُ يَشَارِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفَطْرِيِّ  
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَسْحَاقِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَبْرَةِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْصَّلَاةُ فِي الْبَيْوَتِ صَاحِحُ النَّسَائِيُّ ١٣ بَابُ مَا  
جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْلَيِّ ثَنا هَشَمٌ بْنُ عَلَيْهِ  
الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَصِلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَصِلِّي سَرْكَعَتَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ  
بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنا أَسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاضَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْحَاقِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍونِ قَتَادَةِ  
عَنْ شَحْوَنَ بْنِ لَبِيبٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدْرَبِ حَفَّ قَالَ أَتَأْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
بَنِي عَبْدِ الْأَشَهَلِ فَصَلَّى بَنَّا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ثُمَّ قَالَ ارْكَعُوا هَاتِيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْوَتِكُمْ  
أَبْنَيْ مَاجِهِ بَابَ السَّنَنِ وَفَضَائِلِهَا ١٤ وَعَنْ أَبْنَ عَمْرٍونِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرْكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهَرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوِرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ  
وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ  
صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطْوِعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يَصِلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ  
الظَّهَرِ بِعَادِرٍ يَخْرُجُ فَيَصِلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي صَلَوةِ سَرْكَعَتَيْنِ وَكَانَ يَصِلِّي بِالنَّاسِ  
الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي صَلَوةِ سَرْكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَصِلِّي بِالنَّاسِ الْعَشَاءَ وَيَدْخُلُ فِي صَلَوةِ سَرْكَعَتَيْنِ  
الْحَدِيثُ شَرِيعَةُ مُسْلِمٍ ١٥ مُشْكُوْةُ الْمَصَابِيْجِ -

## مَكْتُوبٌ بِبَيْتِ پَيْمَانِنَا مُلَّا عَطَا مُحَمَّدٌ صَنَوْفُ الصَّدَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبْرَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْتَ - إِنَّمَا بَعْدَهُ أَخْرَى أَعْزَى أَرْشَدَيْتَ مُلَّا عَطَا مُحَمَّدَ أَخْرَنَدَ  
زَادَهُ صَاحِبُ سَلَمَةِ الْمَرْتَعَلَةِ وَمُلَادَادِ مُحَمَّدِ صَاحِبِ سَلَمَةِ الْمَرْتَعَلَةِ -

از جانب فقیر حقیر لاشتے دوست محمد که مشهور به حاجی است کان المدرسه عوضا عن کل شئی پس از تسلیمات مسنون و دعوات ترقیات دارین مشحون مطالعه نمایند الحمد لله رب العالمین که احوال ایں جائے بفضل دکرم الی عزیز شاهزاد است و المسئول من العبر بجهانه سلام شکر و عافیت شکر و شایشکر علی الشریعه علی صاحبها الصلوة والسلام . المرام آنکه مکتوب مرغوب که ابلاغ داشته بودند رسید کو افک من در جوش بوضوح انجامید . جز اکم اسرار تعالیه عننا خیر الجزا .

وآنچه استفسار مسئلہ سبیث بنی نموده بودند ، صاحبادرین مسئلہ اکثر از علماء اهل سنت وجماعت بکفر سابع و عدم قبول توبه رفتہ اند بعضے بعدم تکفیر ..... و قبول توبه او رفتہ اند پس مفتی رالازم وواجب که در چنین مسئلہ که استخفاف و استھناء فضل صحابه نموده اند فتویے بر قول مفتی به بدینه و حکم بکفر بکند .

من سبیث الشیخین او طعن فیهم کفر ولا تقبل تو بتعاویه اخذ العین سنی و هو المختار للفتوى انتهی وجزء بیهی فی الاشباع واقرة المصنف در المختار فی باب الارتداد قال فی الكتاب المسمی بالأشباع والنظائر ان کل کافرا اذا تاب تقبل تو بعثتہ فی الدنیا والآخرة الا من سبیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قد فیت عائشة رضی اللہ علیہ عنہا فانہ یکفر ويقتل ولا تقبل تو بعثتہ بیل قولہ تعالیی اَنَّ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ وَأَبْعَدُوا إِيمَانَهُمْ ثُمَّ أَرْدَادُ الْكُفَّارِ أَنْ تُقْبَلَ تَوْبَةَ هُنَّاَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الآیة ونقل بعض هم عن اکثر العلماء ان من سبیث ابا بکر و عمر کان کافرا ۲۰ زد اجر من عینہ فسبیث والطعن فیهم وان کان چنانی خالفت الادلة القطعیة فکفر کقدر کقدر عائشة رضی اللہ علیہ عنہا دلائل عده و فسوق شرح عقائد من عیث .

اقول مثبتاً لما قد مرت المتن عذکه سبیثین کفر است و احادیث صحیح برآں الی هم کما اخرج المجاهد والطبرانی و الحاکم عن عویین ساعدۃ اند صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اند اختاری اصحابی بجعل منهمر و نصاراً و انصاراً و اصحاباً امن سبیهم فعليهم العذکه اند والملائكة والناس اجمعین لا يقبل اند منه صرف اولاً عبد لا و كما اخرج البارقطنی عن علی رضی اللہ تعالیی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیئاتی من بعدی قوم لهم فیبری یقال لهم الرافضة فان ادرکتھم فاقتلهم فاگھم و شرکون قال قدست

یا رسول اند ما العلامه فیهم قال یفیر طوناٹ ہالیس نیک و یطعنون علی السلف<sup>۱</sup>  
الخرج عنہ من هر ق اخیر و نحوہ و زادہ عنہ و آیۃ ذلت افهم یسیون ابا بکر و  
عمر من سبب اصحابی فعلیہ لعنة اند والملائکة والناس اجمعین امثال ایں احادیث  
بیمار آمده کے ایں رسالہ گنجائش آں ندارد۔

واليضا سبب تین موجب بعض ایشان است و بعض ایشان کفر است۔ بالخبر من  
بغضہ هر فضل ابغضتی و من آذاء هم فضل آذانی و من آذانی فقد آذی اند و رایضاً  
امخرج این عسکران رسوال اند صلی ادلہ علیہ وسلم قال حب ابی بکر و عمر ایمان  
ربغضدها کفر<sup>۲</sup> از رسالہ رد شیعہ محبوب سُبحانی مجید و منور الف ثانی شیخ احمد فاروقی  
برتریندی قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ القدر من عینہ السلام اولاً و آخرًا باطننا و صلی اللہ علی خیر  
خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ہے

## مکتوب بیت وشم بنام خان ملا خان صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الیں اصطفی۔ اما بعد، شواہ فضل و افضل دلائل عنایات  
کمال و اکمال رافع ملت بیضانا صب رایات شریعت غرائم عاذ کا برعظماً ملاذ اعظم علماء  
محقق قوانین ملک و ملت و مقرر افانین دین و دولت زمبدہ فضلاء و قدوة علماء عالی جناب  
مشریعت مکتب خان ملا خان صاحب سلمہ اسرار تعالیٰ تابان و درخشاں باد۔

از جا شہب فقیر حقیر لاشئ دوست محمد کہ مشہور بہ حاجی است کان اللہ عوضا عن کل شی  
پس ابلاغ تخف دعوات و افیات و تسلیمات مسنونات مغروض ضمیر منیر باد الحمد للہ  
کہ احوال ایں جائے بفضل و کرم الی عز شانہ قرین سپاس بے قیاس منعم حقیقی است جل  
شانہ پیوستہ بہ ہبودی داریں و عافیت و رفاهیت کوئین آں جناب معلی از بارگاہ اللہ عز  
شانہ مطلوب القلوب بل اخص مدعا است۔

عرض ایں کہ فقیر دہ عدد رسائل کہ اسمی در ذیل مفصل نوشتہ مے شود در باب رد  
اقوال و اعتقاد فاسدہ فرقہ محمد شہ و ہابیہ دوست یا ب نمودہ بخدمت شریعت فرستادہ مشد

اُن شاء اللہ تعالیٰ خواہند رسید پس از رُوئے غور پر دری دین میں محمدی حصلی اللہ علیہ وسلم آنہارا  
روج دہند با وجود حصول اجر جزیل از ریت جلیل نقیر را دام دعا گوئے ذات خوبیش را نہدار  
تعالیٰ شانہ و عز بہرہ مانہ آں مروج شرعیت مصطفویہ علی صاحبہا الصلة والسلام و  
مقویٰ فرقہ ناجیہ کہ عبارت ازاہل سنت و جماعت است در دارین سلامت باکر راست  
وعزیت داراد بالنبی وآلہ الامجاد علیہم الصلة والسلام داسامي رسالہما این است اول  
حق لمین تصنیف حضرت مرشدی و شیخی قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ السامي - دویم دیلر القوی  
علی ترک القراءة للمقتدی - سوم کیم زبدۃ الموارب چھارم اشباع الكلام فی اثبات المولود  
القیام - پنجم تذکرۃ الموتی والقبور ششم رد استفتا و رہایان - هفتم ہبۃ الطاعات سیشم  
ڈر المتقود فی حکم امرأۃ المفقود - هشتم رسالہ شاہ عبدالعزیز - دهم رست الہ محتوى برہیان مسانہ  
فرقہ ناجیہ فقط پس ایں رسائل رائجہ دست سامی ہمدست سیما دست پناہ دنجاہ دست فضیلہ  
دستگاہ حقائق و معارف آگاہ ملا جید رشاد صاحب و فضیلت پناہ ملا صاحبزادہ نام تھم  
سیہمان خیل فرستادہ امید کہ خواہد رسانید ازانجا کر آں جناب فیضی کا بقدرہ علماء الائمه  
در جمع امورات دینی و دنیوی خاص و عام است نوشتہ می شوڑ کہ لشہر فی الشہر ربیع قلع  
فرقہ محمد شہ وہابیہ سعی بلیغ بخار بزند وسائل فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت را روچ دہند  
اُن شاء اللہ تعالیٰ موجب برکات دارین و سعادت کوئین آنچنان بخواہد گردید فقط والسلام  
الموقم بتاریخ غرہ ربیع الثانی ۱۴۸۷ھ

## مکتوب بیت ہفتہ نام خلیفہ حلیل القد ملائیں اللہ صاحب ہر انی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين صطفى اما بعد اخوى اعزى ارشى ملائیں اللہ اخوندزاده  
صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

از فقیر حیر لاثئے دوست محمد کہ مشہور بہ حاجی است کان اللہ عوضا عن کل شئی پس از  
سلام مسلون و دعوات ترقیات دارین مشحون مطالعہ نہایں احمد سردار المنۃ کہ احوالات و  
گزارشات این جائے بفضل و کرم الہی عز شانہ قریں پاس بے قیام منعم حقیقی انجل جلال

وَعَنْتُ نَوَّالَهُ وَالْمَسْوَلَ مِنَ الْمُرْسَلِ جَاهَةً سَلَامٌ لَكُمْ وَعَافِيَتُكُمْ وَشَانِحُمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى صَاحِبِهَا  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

المرام آنکہ مکتوب مشتعل بر رسیدن بوطن خوشیں بخیریت و عافیت کے ہمروں ملا راز محمد لوہن  
اپلائغ داشتہ بودند درین ہمین رسید کوائف مندرجہ اس واضح گردید لیکن عجب است کہ  
حوال رسانیدن کتاب مستطاب مناقب احمد یہ سعیدیہ بیدملاء عبد الحق اول صاحب شوشتر  
اند و نیز قلمی نہ نموده اند کہ کتاب مستطاب مناقب احمد یہ بعلماں آں دیار آشنا کارہ ساختم والیض  
عجب است کہ پیک کے برائے برادر شما ملائیف العبدادہ بودم رسیدش نہ نوشند و نہ  
ملائیف العبدگمان میے کنم کہ شے حقیر بہ نظر شما یاں درآمدہ ان فقط  
دیگر آنکہ اے برادر بر مرید صادق و محب لازم و واجب کہ در جمیع افعال و اقوال و اخلاق  
را طوار پیر دی مانند پیران کیا علیہم الرحمۃ میے سازند و حتی الوسع خود مخالفت از روشنی او  
شاں نکے در زندگہ مخالفت او شاں سبب بے برکتی و سذیض باطنی اند آں برادر انیک  
معالم کہ پیران کیا ایں فقیر قدس سر ہم بر عزمیت نشستہ انداز کے حاکم و غنی وظیفہ قبول فرمودہ  
اند چنانچہ نقل مشہور کہ بغوث زمان قطب دوران حضرت مرا جان جاناں صاحب قدس اسر  
تعالیٰ سره الاقدر محدث شاہ بادشاہ قر الدین ذریخ خود را در خدمت او شاں فرستادہ کہ اسر تعالیٰ  
مارا ملکے عطا فرمودہ ہرچہ بخاطر بر سد بطریق ہدیہ قبول فرمایند۔ فرمودند اسر تعالیٰ میے فرمایند  
قُلْ مَتَّاعُ اللَّهِ نِيَّا قَلِيلٌ مَتَّاعٌ هُفْتَ أَقْلِيمٍ رَّأْقَلِيلٍ فَرِمْودَه نَرَدْ شَما هُفْتَمْ حصَه آن قلیل یک  
اقلیم مہندستان است پیش شما چیت کہ بر تھیت فقراء بقبول آں فرد آئید یکے ازا مراء  
حویلی کلاں و خانقاہ و مسجد شریف مرب مرتبت ساختہ و وجہ معاش فقار میں نموده چناب حضرت  
مرزا صاحب قبول فرمودند کہ برائے گذشت مکان خوشیں دبے گانہ برادر است در زندگی  
ہر کس در غلام الہی مقدر و مقرر است بوقت خود ناچار میے رسد گنجینہ فقار صبر و فناعت بس  
است و ہم نواب نظام الملک شی ہزارہ و پیغمبر نقد بطریق نیاز آور د قبول نہ نمودند و نواب  
در خدمت او شاں عرض ساخت کہ در را خدا بار باب حاجت تقسیم فرمایند فرمودند من  
خاتمة شما یہیتم و چناب قطب دوران قیوم زماں حضرت شاہ صاحب و چناب  
پیغمبر مآب حضرت مرشد یہیم قدس اسر تعالیٰ بسرہ الاقدر از کے حاکم و امیر و غنی وظیفہ قبول  
نفر موده و ہم احوال ایں فقیر در باب عدم قبول و ظائف امراء و زمینات اغذیا، باں برادر

نیک معلوم حاجت مفصل نوشتند نیست و عجب صد عجب باں برادرے آید که روش و پروردی پیران کبار خود گذاشتند و ظیفہ بیت خود ارجام کان قبول ساختند ایں روشن شامناقی توکل است. اگر بالفرض حقیر را حکم کرد و پسند نقد بلکه صد لکھ بدین قبول خواهیم کرد که پیران کبار ما قدسنا اسرار علی وظائف حکما قبول نفرموده اند و حکم پیران کبار را باعزیزیت نشسته اندر چاڑه وزارت و مسائلت نکے نمایند و مریدان را ز قبول وظائف حکماء و تجارت نزد راعت منع می سازند فقط والسلام ۶

## مکتوب بیت و هم بام سیاست پناه قاضی جید رشاد صفا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و السلام على عباده الذين صطفى - اما بعد ، اخرى اعزى ارشادی فاضی جید رشاد صاحب سلمہ اسرار عالی .

از فقیر حیرلائے دوست محمد که مشهور به حاجی است کان اسرار عویضاعن کل شی پس از سلام شفت الاسلام آن که رقیمه کر نمی شتم براستفسار چند مسائل که فرستاده بودند رسید از مطالعه آن خود سندی گردید برادران فقیر را سبب تهیه اسباب سفر فرصت نوشتند جواب آنها بود اما چون مکاتیب او شان به تکرار رسیدند از اجابت مسئول چاره نزدیم اما قبل از جواب مسئله اول مناسب آن داشتم که بعضی آیات و احادیث که در مناقب صحابه درود یافته اند لذکر نمایم پس ازان حکم روافض سبیره از کتب فقه وغیره اجمالاً ایجاد کنم و اسرار عالی العاصم .

باید دانست که در مناقب صحابه کبار عموماً و مناقب خلفاً اربعه مخصوصاً آیات و احادیث شبویه و آثار صحابه و تابعین زیاده ازان است که احصا توان کرد چند آیات و احادیث ثبت که در مناقب ایں بزرگواران درود یافته ایجاد می شود - الآية الاولی قول تعالیٰ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعْلِمُونَ بِإِلَهٍ قَالَ أَمَنَّ أَهْلُ الْكِتَابَ لَهُمْ خَيْرٌ الْهُنُّ مِنْهُمْ الْمُنْتَهُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ** ۵ از این آیت مبارک خیریت ایں است مرحومه که ساین

ایشان اصحاب کیا راند و اولین مخاطب اندر ثابت می شود پس آنکار خیریت ایشان نمی کند  
 مگر منکر قرآن العیاذ بالله من ذلک الکفر والخسروان - الآیة الثانیة قوله تعالیٰ وَكَذَلِكَ  
 بَعْلَئُوكُمْ أُمَّةٌ وَسَطَا لَتَكُونُوا شَهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
 ازین جا خیریت وعد الست ایں ام است کہ صحابہ خیار ایشان در ثابت است و ازین جهت  
 روز قیامت شود برایهم سایقہ خواهد بود - الآیة الثالثة قوله تعالیٰ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَارِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِلْهَامِ  
 و صدق الصہماوی می باشد علیہ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَيْنَةً عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحَاقُورُهُمَا  
 و هم فتنے خیبر و مغایر کی تیزی را یا خدن و هاد کان اللہ عزیز احکیم اهیں آیت  
 نازل شد دریح حدیثیه و مؤمنین دریں صلح مقدار چهارده یا پانزده صد از هم باجرین و انصار  
 حاضر بودند و خلفاء اربعہ هم دریں صلح حاضر بودند پس کسانیکہ کہ حق تعالیٰ از ایشان راضی است  
 کہ رضا آخر مقام از مقامات اولیا است اگر روانی ملاعین از ایشان راضی نہ باشند بجز  
 سخطِ الیٰ تعالیٰ تبع حمل نکرده باشند العیاذ بالله تعالیٰ منه - الآیة الرابعة قوله تعالیٰ  
 حُمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ای اصحابہ آشیل اء عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَّلُهُمْ بَيْنَهُمْ  
 تَرَهُمْ رَكْعًا سُجَّدًا ای بتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْنُوا أَنَّا سَيْمَا هُمْ فِي دُرُجَاتِهِمْ مِنْ  
 آتِيَ السُّجُودِ ذلک مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرِعَ أَخْرَجَ شَطَاةً  
 فَأَرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الرَّسُولُ أَعْلَمُ بِغَيْظِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ  
 اللَّهُ الَّذِينَ أَصْنَوُوا وَعَمِلُوا الْمُبْلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَآجْرًا عَظِيمًا عن عکرمه  
 آخر شطاہ بابی بکر فائزہ بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوای علی سویقه بعلی  
 رضوان العلیهم کذا فی المدارک التنزیل - ازین آیت واضح البیان ایشان اصحاب کرام  
 علیهم الرضوان معلوم باید کرد که چگونه درج ذنبار او شان حضرت رحمان ذکر فرموده -  
 قال فی الموارد البدنیة اما اصحاب رضوان اهل علیهم فقال اهل بیحی  
 و تعالیٰ محب رسول اهل و الذین امنوا معه اشلاء علی الکفار رحما علیهم فی المدارک  
 اخر السورۃ لما اخبر تعالیٰ ان سیدنا محمد صلی الله علیہ و علی الله و سلم رسوله  
 حقاً من غیر شک و لا ریب فقال محب رسول اهل و هن امبتدا و خبر و قال  
 بیضاوی وغيره جملہ تنبیه ہی للمشهود به یعنی قوله ہو الذی ارسیل رسوله

بالهوى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بذلك شهيداً قال ويحيى انه ان يكون  
 رسول الله صفة لمحمد ومحى خبر مبتدأ بمحى وف انتهى - وهذه الآية مشتملة  
 على كل وصف جميل ثم ثانية بالشدة على اصحابه والذين معهم اشداء على الكفار  
 رحمة بينهم كما قال الله تعالى وسوف يأتي الله بقوم يرحمهم ويحبونها اذلة على  
 المؤمنين اعزة على الكفار فو صفهم بالشدة والغلظة على الكفار والرحمة والبر  
 للاخرين اثر اثنى عليهم بكثرة الاعمال مع الاخلاص التام فمن نظر اليهم اعجب  
 سمه لهم وهذا يلخص خلوص نيتهم وحسن اعمالهم قال مالك بلغني ان النصارى  
 كانوا اذا ساروا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون وادله لهؤلاء خير من الحواريين  
 فيما يلغونا صدقاً فان هذه الامة المحمدية خصوصاً الصحابة لهم بذكريهم معظمها  
 في الكتاب كما قال سمعنا منه وتعالى هنا ذكر مثالهم في التوراة ومثالهم في  
 الانجيل كزسرع اخرج شطاۃ ای فراخه فاذرك اي شدائد قوى الا فاستغلظ شب  
 فطال فاستوى على سوقه يحب الزراعة قوته وغلظة وحسن منظره فكان ذلك  
 اصحاب شهد صلوا الله عليه وصلوا الله وسلماً ازدواجاً وایدوكاً ونصروكاً فهم معه  
 كالشطأ مع الزراعة ليغطي ظهرهم الكفار ومن هذه الآيات انتزع الامام مالك رحم  
 الله تعالى في رواية عن تكfir الرافضيين الذين يبغضون الصحابة قال لا لهم  
 يغيطون ومن عاظ الصحابة فهو كافر فقد وافقه على ذلك جماعة من العلماء انتهى  
 اذروا يات امام مالك معلوم مسند صريحاً كمسكك سبب اصحاب ازراه غيظ كذا فاست  
 چه جائی شيخين كما يشان بعزيز مناقب آل صحابة ان در ضوان الله عليهم الجميين . الآية الخامسة  
 للقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اسْتَرْجَحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ  
 اللَّهِ وَرِزْقًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ لِئَلَّاتِ هُمْ الصَّابِرُونَ هَذَا  
 بَيْقُ اللَّهِ أَسَرَّ الْإِنْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَكَمْ يَجِدُونَ فِي  
 صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُقْتُلُونَ أَوْ يُبْعَثَرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ يَهْوِي خَصَاصَة  
 وَمَنْ يُقْتَلَ شَهِيدٌ فَأَوْلَيَاتُهُمُ الْمُفْلِحُونَ وصف كرد حق تعالى فقراء هاجرین  
 رايانکه طلب می کنند از حق تعالی افضل را که جذت است و خوشبودی حق را وبا آنکه یاری  
 می کند دین خدا را رسول او را صلی الله علیہ وسلم و با آنکه راست اندر ایمان و بهادگر دن

بعد آن وحضرات الشیخین نیزار فقراء هم اجری ان چنانچه بر ناظرین کتب سیر و حدیث پوشیده نیست.

باید دانست که حب خلفاً، اربعه از جمله فرائض است. چنانچه در موایب الدینیه آورده است قد شی الطبرانی في الرياض دعا را إلى المسلاخ في سیرت عن انس هر فوغاً ان الله افترض عليككم حب ابی بکر و عمر و عثمان وعلى رضی الله عنهم كما افترض الصالحة والضئل والذکر فقط والمحظى من انکر فضلهم فلان قبل منھم الصالحة ولا الذکر ولا الضئل ولا الحجۃ. وانخرط في السلفي في مشیخته من حدیث انس هر فوغاً حب ابی بکر واحب على امتی ثقال صباً المواهب فوجبتة من احباب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل بيته واصحابه ضیا اللہ عنھم علامۃ علی صحبتة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ان صحبتة صلی اللہ علیہ وسلم علامۃ صحبة اللہ تعالیٰ وکذلت علاروة من عاداهم وبغض من ابغضهم وسبھم فمن احب احداً احب من يحب البعض من يبغض قال اللہ تعالیٰ لا تجحد قوماً يؤمّنون بآدله، واليوم الآخر يواجهون من حاد آدله ورسول نجوب آل بيته صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه او لادة واذا راجعه من الواجبة المتعينات وبغضهم من المؤذنة المهلكات ومن عجائبهم حجب توقيفهم درهم والقيمة بحقهم الاتصال بهم بان يمشي على سنهم ادا بهم اخلاقيهم العمل باقوالهم مما ليس للعقل فيه بحال حسن الثناء عليهم بغير اباده صافهم الجميلة على قصد التعظيم فقد اشني عليهم اللہ تعالیٰ في كتاب المحبين من اشقي آدله عليه فهق احب الثناء والاستغفار لهم انتهى قال اللہ تعالیٰ و الذين جاءوا من بعدهم يقولون بنا اغضرنا و لا خواننا الذين سبقونا بالاده ان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انت رعوف الرحيم قال في المواهب قالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنھما اصر ما ان يستغفر لهم الاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبوهم سراة مسلمة و فاطمة المستغفرون اصر ما ان يستغفر لهم الاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبوهم الطعن فيهم اذا كان هم اخالف الادلة القطعية كهر كقد عائشة علیه و ایضاً افیه فسبوهم الطعن فيهم اذا كان هم اخالف الادلة القطعية كهر كقد عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنھما الا فبد عتو فسق قال صلی اللہ علیہ وسلم يا ايها الناس احتفظو في احبابي و اصحابي لا يطالبكم ادله بمعظمه احد منهم فاها ليست هما توهب سراة الثاني وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ادله في احبابي لا تخذلهم غرض امن بعد من احبهم فرقى احبني من ابغضهم فقد ابغضتني من اذ اهتم فقد اذاني ومن اذاني فقد ذي ادله ومن اذى احبني فيوشك ان ياخذ سراة المخلص الذي هي هذا الحدیث كما قال بعضهم مخرج الوصیة ادله فيوشك ان ياخذ سراة المخلص الذي هي هذا الحدیث كما قال بعضهم مخرج الوصیة

باصحابه على طريق التأكيد الترغيب في حجتهم الترهيب عن بعضهم في اشارة الى ان جهود  
 من الامان بعضهم كفراً لانه اذا كان بعضهم يفضلها كان كفراً بلا منازع للحديث السابق لمن  
 يؤمن احدكم حتى تكون احب اليه من نفسه وهذا يدل على حكم شرهم منه بتزيلهم منزلة  
 نفسه حتى كان اذا هم اقع عليهم واصلاً اليه صلوا الله عليه سلم والغرض المدلف الذي يرى فيه  
 فهو خى عن ميمون موكلاً بذلك تحديرهم الله منه ماذا ذلك الا لشن الحرقه وسرى عروضاً من سبب  
 احداً من اصحابي فاجلدوا خرجت عما في قوائمه وقال عالى بن انس غيره ما ذكره القاضي عياض  
 من البعض الصحابة فليس له في المسلمين حتى قال وزرع اي استدل بأية للحشر من الذين جاءوا  
 من بعد هم الآية وادله سبحان الله اعلم انتهى والحادي ثالثة في مناقبهم ان تخصي ليكين  
 نزل كبعضها منها ثلاثة يخلو الرسالة عنها . فالاول ما اخرج احمد بن ابي داود المترقبى غيرهم بسانده  
 الصحيح عنه ابن هيرمة قال قال رسول الله صلوا الله عليه سلم مستفتراً امتي على ثمث سبعين  
 فرقة كلهم في النازلة واحداً قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين هم على ما انا عليه اصحابي كذلك في  
 السيف المسؤول راهن بحات را مخصوصاً برا ينجز او را اصحابي او براندر صل اسر عليه وسلم . الحديث الثاني  
 اصحابي كالنجوم بما يهم اقتديتم شرعاً اليه يقى عن عمر بن الخطاب هرفاً عاهداً هكذا في السيف  
 المسؤول بغير خدا صل اسر عليه وسلم هرئي ازا اصحاب خورا بهم تشيبة اده است . الثالث حديث  
 الطبراني والرابع حديث الحافظ السلفي الخامس حل يث الخليع السادس حديث المخلص  
 النبوي قد ذكرناها فلنعيدها لخوف التطويل . الحديث السابع اخرج عبد بن جميد في  
 مسند وابونعيم غيرهما من طرق ابي الدرداء ان رسول الله صل الله عليه سلم قال ما اطاعت  
 الشمس لا اغربت على حبل افضل من ابي بكر لا ان يكون بعياد في لفظ اما طاعت الشمس  
 على احد بعد النبيين المسلمين افضل من ابي بكر رضى الله عنه دريد ايضاً من حديث  
 جابر لفظه ما طاعت الشمس على احد منكم افضل منه وآخره الطبراني وغيره وله شواهد  
 من جوك تقضي له بالصحة او الحسن قل اشار ابن كثير الى الحكم بالصحة الحديث الثامن اخرج  
 الطبراني وابن عذر عن سلمة بن الاكوع قال رسول الله صل الله عليه سلم ابو بكر خير  
 الناس الا ان يكون بعياد الحديث التاسع اخرج ابن عساكر عن انس هرفاً احب ابي بكر وعمر  
 ايماً بغضبهما كفر بقول ابي ابيات بيتات داحاريث بيد الكائنات عليه الصلة الراكيث التسليات  
 النامية خواندى وتعظيمه وتوفير شيخين رضى الله عنهم دار ضمن عموم آيات احاديث وخصوص آنها معلوم

كوفي ليس بمتضمن مفهوم أى نصوص وما تلقيت عليه عن قريب من الآيات الأحاديث الروايات  
 قد حكى كثيرون من العلماء والكرام رواية سبب الشعيبين ضيقاً جداً عنه عدم قبول توبته في تلك الأيام  
 الرافضي إذا كان يسب الشعيبين يلعنها العياذ بالله فهو كفروان كان يفضل عليه كرم الله تعالى وجهه  
 على أبي بكر رضي الله عنه لا يكون كافرا إلا أنه مبتدع عالمييري . أو المخافر يسب الشعيبين أو  
 يسب أحد هم في الجر عن الجهرة مغزى المشهدين من سبب الشعيبين أو طعن نبيه كفر لا تقبل توبته  
 وبه أخذ الملاوي وابوالليث وهو المختار للفتوح جزم به في الأشباء وأقر المصروف قائل وهذا  
 يقوى القول بعدم قبول توبة الساب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبعي التعليل عليه في  
 الأفتاء والقضاء رعاية بجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي المختار في المجازية عن  
 الخلاصة إن الرافضي إذا كان يسب الشعيبين ديلعنهم فهو كافر ١٢ شرعاً المختار ونقل بعضه عن  
 أكثر العلماء من سبب اببا بكر أو عمر كان كافراً زواجاً قول مثبت المقدمة الممنوعة كرسب شعيبين  
 كفراً سبب رواية صحيحه برأس دال است كما أخرج الجواهري الطبراني والحاكم عن عوين الساعدي  
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختارني واختارني أصحابي وجعل فيهم وزراء وائضاً  
 واصهاً لأن من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا تقبل منه صرفاً ولا  
 عدلاً كما أخرج الدارقطني على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيامي من بعد  
 قوم لهم نذر يقال لهم الرافضة فان ادركتمه فاقتلوهم فانهم مشركون قال قلت يا رسول الله  
 ما العلامات فيهم قال يضرّ لهم ذلك بما ليس فيهم ويطعنون على السلف وآخرين عنه عن طريق  
 اخرى نحوه وزاد عن آية ذلك انهم يسبون اببا بكر وعمر من سبب أصحابي فعليه لعنة الله وال  
 الملائكة والناس أجمعين وامثال ايس احاديث بسيار آمده ك اي رساله لنجاشي آن مداره . واليهم سبب  
 شعيبين ولغيره ايشان كفراً سبب بالخبر من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاي ومن  
 اذاي فقد اذى الله وايضاً أخرج ابن عساكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب ابي بكر  
 وعمر ايمان وبغضهما كفر ١٣ رساله امام ربانى بجد الف ثانى شيخ احمد فاروقى سرندى وaker كرسبي شعيبين  
 العياذ بالله من شود او راقيل باید کرد . من على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم يا ابا الحسن اما انت وشيعتك في الجنة وان قوها يزعمون انهم يحبونك بصغرى الاسلام  
 ثم يلقطونه بغير قوه كما يمرون السهم من كبد القوس لهم نذر يقال لهم الرافضة فان ادركتمه  
 فاقتلوه فانهم مشركون شرعاً الدارقطني وسرى ايضاً عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

قال سياق من بعدي قوم لهم نبي يقال لهم الرافضة فان ادركتم فاقتلاهم فاهم مشركون  
 قال قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يفرون بهم فليس فيهم فيت ويطعنون على السلف  
 وخارج الراقرطن من طريق آخر نحو لا زاد فيه ينتحلون حبلاً لاهل البيت وليسوا كذلك  
 دأبة ذلك افهم يسيرون اي باكر و عمر و اخرج ايضا من طريق آخر عن فاطمة الزهراء و امر سلمة  
 رضي الله تعالى عنهم نحوه عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادراك على عمل  
 اذا فعلته كنت من اهل الجنة يكون من بعدي اقواء يقال لهم الرافضة اذا ادركتم فاقتلاهم  
 فاهم مشركون قال على قلت ما علامة ذلك قال افهم يسيرون اي باكر و عمر راه الطبراني و  
 البغوي و عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتى  
 قوم يسمون رافضة يرفضون الاسلام راه البهقي و عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت  
 نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اعلى قال هذا في الجنة و ان من شيعت قوم يرفضون الاسلام هم  
 نبيون الرافضة ياعلى فاذ ادركتم فاقتلاهم فاهم مشركون راه الطبراني و البغوي روى  
 البغوي في المعالج عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيرتك تكون من  
 اهل الجنة فان توفيت تحلون بحبل يقرؤون القرآن لا يجادل زرقاء هم نبيون الرافضة فان  
 ادركتم فجاءكم فاهم مشركون و روى اهرئ عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على  
 بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 و سلم يظهر في امتى في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام و روى الحافظ  
 الدبوسي و الحافظ رضي الدين احمد بن اسما عباد بن يوسف بن الحاكم عن ابن عمر النبى  
 صلى الله عليه وسلم قال لعلى يا على انت في الجنة وسيكون بعدى قوم يقال لهم الرافضة  
 فاذ ادركتم فاقتلاهم فاهم مشركون قال على يا رسول الله ما علامة هؤلاء قال عليه  
 السلام لا يرون الجنة ولا يجتمعون اي باكر و عمر و اخرج الطبراني و الحاكم عن عويس  
 بن الساعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني و اختارني اصحابي  
 جعل فيهم ذرا و انصارا و اصحابا من سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة والناس جميعين  
 السيف المسلول :

جواب سائله يركب بحسبية حق تعالى شانه قال شود كافراست وان انکر بعض ما علم من الدين  
 ضرورة كفر كقوله ان الله تعالى جسم كالاجسام و انكار صحبة الصديق ۲۲ دریختار خدا را

جسمكَفْنَ وَدَسْتُ پَارَ وَرُوْكَفْنَ كَفْرَاسْتَ تَمَّهُ مَا لَبَدَّ مِنْهُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ سَجَانَهُ تَعَالَى جَسْمُهُ مَكَانٌ وَ  
يَمْوِلُهُ الزَّفَانُ نَحْنُ ذَلِكَ فَانَّهُ كَافِرٌ عَلَى قَارِئِ الْبَيْنَاتِ لَا تَزِيلُ الْإِيمَانُ الْمُرْفَةُ الْأَنْكَارُ عَلَمَ أَنَّهُ  
تَعَالَى بِالْجَزِيرَاتِ وَالْجَسِيمِ فَانَّهُ يَكْفِي بِهِمَا بِالْإِجْمَاعِ مِنْ غَيْرِ النَّزَاعِ ۝ مَلَأْتُ عَلَى قَارِئِ

جَوَابَ مَسْلَمَ إِنَّا خَضْنَ نَاسَوَارَ دَرَدَهُنْ بِحِسْبٍ ظَاهِرٍ مُفْطَرٍ صَوْمٍ اسْتَ چَرَكَهُ اصْلَاحٍ بِدَنْ رَفْعٍ بِقَبْضٍ  
تَسْكِينٍ طَبَعَ إِنَّا خَضْنَ نَاسَوَارَ حَصْلَ مَعْ شَوْدَ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُحْقِقُونَ أَنَّ مَعْنَى الْغَطْرُ صَوْلَ فَإِنْ  
صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ أَعْمَمُ مِنْ كُونَهُ غَذَاءً وَدَرَاءً ۝ إِنَّا الْمُخْتَارَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَظْهَرُ مِنْ  
مِطَالِعَتِهِ كَتَبُ الْفَقَهِ أَنَّ الْمُعْتَبِرَ فِي أَفْسَادِ الصَّبَوْمِ وَصَوْلِ الْمُفْطَرِ يَقِينًا إِلَى الْجَوْفِ أَوْ إِلَى الدَّمَاغِ ثُمَّ  
إِنَّ كَثُرَنَ الْوَاصِلَ مُفْطَرًا صَوْلَهُ وَمَعْنَى مَثْلَهُ يَتَعَذَّرُ بِهِ ابْتِلَوْيَ بِهِ فَهِيَ الْكَفَارَةُ وَانْ كَانَ  
الْمُفْطَرُ صَوْمًا لَا مَعْنَى فَلَا كَفَارَةٌ فِيهِ مَثْلَهُ يَتَعَذَّرُ بِهِ كَلْحَدَيْنُ بِلَحْسِ هَذَا إِذَا  
كَانَ وَصْبُولَهُ يَقِينًا أَمَا إِذَا كَانَ فِي وَصْبُولَهِ شَكٌ فَعَنْدَ إِلَى حَنِيفَةٍ يَفْسُدُ لِصَوْمِهِ كَلْدُهُ أَدَمُ الرَّطْبُ عَلَى  
بِلَحَائِفَةِ وَالْأَمَّةِ وَقَالُوا لَا يَفْطَرُ لِعَدُمِ الْيَقِينِ فِي الْوَصْبُولِ فَيَقِيمُونَ فِيهِ إِذَا يَقِنُ بِعِدْمِ وَصْبُولِ شَعْرِ  
بِالْأَخَالِ فِي الْفَمِ لَا يَفْسُدُ بِالْإِجْمَاعِ كَادْخَالُ الْحَدَيْنِ فِي فِيَّ لَكَنَّ إِذَا كَانَ بِلَاضْرُرَةِ يَكُوْهُ وَانْ  
كَانَ فِي وَصْبُولَهِ شَكٌ فَعَلَى قِيَامِهِ إِلَى حَنِيفَةٍ يَفْسُدُ عَلَى قِيَامِ الصَّاحِبِيْنَ لَا يَفْسُدُ فَأَنْظَرَ إِلَى  
مَا كَتَبْنَا مِنْ وَارِيَاتِ الْكَتَبِ أَفْهَمُ مَقْصُوْتَهُ قَالَ فِي الْمُخْتَصِرِ كَهُ مَضْعُمٌ شَئٌ هَذَا إِذَا مَرَيَّتْ ذَلِكَ الشَّئِيْ  
بِالْمَضْعُمِ أَوْ لَمْ يَرِيْنَ بُشَّرًا إِذَا تَفَتَّتَ أَوْ زَابَ بِالْمَضْعُمِ فَانَّهُ يَفْسُدُ ۝ بِرِجْنَى وَلَوْتَغْيِيرِ بَعْضِ الْخِيَاطِ بِخَيْطٍ  
مَصْبُوْغٍ وَابْتَلَعَهُ أَنْ صَارَ رِيقَهُ مَثْلَ الصَّبِيْغِ فِي الْلَّوْنِ يَفْسُدُ ۝ شَمْنَى وَيَكُوْهُ لِلصَّائِمِ مَضْعُمٌ  
شَئٌ عَلَكَ أَوْ غَيْرَهُ وَالْمَرَادُ هُوَ الْعَلَكُ الْمَضْعُمُ وَأَمَا الْأَسْوَدُ وَغَيْرُ الْمَضْعُومِ فَعَسْدٌ ۝ أَبُو الْمَكَارُ مَضْعُمُ الْعَلَكُ  
لَا يَفْسُدُ الْمَصِيرِمُ لَا نَكَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَقَيْلَ إِذَا الْمَرِيْكَنْ مُلْتَمِي يَفْسُدُ هَذَا يَهُ ذَلِكَ بِإِنَّ الْمَخْذُولَهُ  
يَعْلَمُكَ أَحَدُ ثَانَهُ فِي الْإِبْتِلَاءِ يَفْتَتُ فِي صَبَلَهُ لِلْجَوْفِ ۝ كَفَايَهُ عَلَى هَذِهِ فِي الْكَتَبِ الْفَقِيرِيَّهُ ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّهُ فِي  
إِدْخَالِ الشَّئِيْهِ فِي الْفَمِ إِذَا يَقِنُ عَدْمُ وَصْبُولَهِ إِلَى الْجَوْفِ بِلَاضْرُرٍ لَا كَرَاهَهُ تَحْرِيمَهُ بِلَا خَلَافٍ مِنْ أَحَدٍ  
فَإِذَا كَانَ الشَّئِيْهِ مَمَّا كَانَ فِي وَصْبُولَهِ شَكٌ بِلَغْبَتِ الظَّنِّ الْوَصْبُولُ فَمَا ظَانَتْ لَكَ لَا عَدْمُ لِلْجَوْفِ وَإِنْ كَابَ  
النَّوْمُ الْمُوجِبُ لِلْمَعْذِلَهِ كَانَ مَصْرَأً عَلَيْهِ قَالَ لِزَيْلِيْعِيْ أَمَا كَرَاهَهُ مَضْعُمُ الصَّائِمُ الْعَلَكُ لِمَا ذَكَرْنَا  
مِنَ التَّعْرِيْضِ الْصَّوْمِ لِلْأَفْسَادِ وَلَا نَهُ يَتَمَمُ بِالْأَفْطَارِ لَكَنَّ مِنْ أَهَمِّ مِنْ بَعْدِ يَظْنَهُ أَكْلَادُهُ قَالَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَقْنَعُ مَوَاقِفَ الْمُهَمَّهُ قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
إِيَّاكَ وَهَا يَسِيقُ إِلَى الْقُلُوبِ أَنْتَمُ كَرَاهَهُ وَانْكَانَ عَنْكَ اعْتِذَارًا كَانَتْهُ وَكَهُ مَضْعُمُ عَلَكَ لَا يَسِيقُ

موضع ملتهم دلاع فيفطر وكذا المفتر بن الا في الخلوة بعد درختار قوله ابيض الى اخوه قيس بذلك  
 لأن الاسود وغير الموضع وغير الملتهم يصل منه شئ الى الجوف في الحلق فغير المسئلة وحملها الكمال  
 بخلاف الآخرين على ذلك قال للقطع بانه معلم بعدم الوصول فان كان مما يصل عادة حكم بالفساد  
 بانه كالمتيقن قوله النتن لا اقول قبل ضطرب اراء العلماء في بعضهم قال بكراته بعضهم  
 قال بجزة وبعضهم بآباجة وافروحة بالتالي في شرح الوهبة نية للشنبيلاتي ومتين من بيع الدخان  
 وشرب الشارب في الصوم لا شك يفطر لزاماً قال قوله قد كرهه شيخنا العوادى في هذه بيته اقول ظاهر  
 كلام العوادى انه مكره لا تحرى ما يفسق متعاطيه فانه قال في فصل الجماعة ويكراه الافتداء بالمعروف  
 باكل الرياؤشي من المحرمات او بذل اصرار على شئ من البدع المكرهات كالدخان المبتدع  
 في هذه الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ١٢ درختار وكراهة ذوق الشئ ومضغ بلا عناء  
 غيره ولو كان الموضع عدوكاً فان فيه تعريضه لا انه متهر بالاظفار فان من اكل من بعضين ينظنه  
 اكلاتيل هذا اذا كان بموضع اذلاً ينفصل منه شئ وان كان غير موضع يفسد لانه يتقتلت  
 ويصل منه شئ الى جوفي ١٣ درج شرح غر صائم عمل الابليس في فيه فخر جر خضراء الصبغ او صفراء  
 او حمراء اختلط بالبريق فصار البريق اخضر او اصفر او احمر فابتلى به اكرصوفه فسد صومه ١٤  
 قاضي خان برادر ابيب ثابت فرضت عدم فراغت از چند کتاب سائل برآورده نوشته شد که القليل  
 يدل على الكثير والقطر لا تنبئ على الغدير امامی دانند که اکثر سائل خصوصاً سائل اجتماعیه از خلاف  
 خالی نیند چنانچه درسته اوی هم بعضه از علماء بخلاف آن رفتہ اندیکن آنچه نزد اکثر علماء راجح و مفتی برآورده  
 و درختار فقیر پیر کبار فقیر است قدسنا السر تعالیٰ با سارکم الائمه نوشته شد زیاده والسلام :

## مكتوب بیت نامه بنام قاضی حیدر شاه صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد ان خوى اعزى ارشدی قاضی حیدر شاه صنایعه  
 از فقیر حقیر لاشتے درست محمد که مشهور بجا حی است کان اسراره عوضاً عن كل شئ واضح می نمایند که  
 طالیم اعطا آخوندزاده صاحب از فقیر رسیدند که بسم الله الرحمن الرحيم در اول مكتوب می نویسند چگونه است  
 گفتم مسنون یاخذ است و گفیت کتایت بسم الله شریف برای ایشان بیان کردم پس ازان در لم  
 گذشت که برآتے قاضی صاحب این مسئله بسم الله بنویم که ایشان را ای حکم معالوم نباشد - اے برادر عربی گفته

کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دراہتہ اسلام مکاتیب بر سر کم قریش می نوشت رہاسک کل اللہ پس گھر  
 کہ نازل شد بسم اللہ جھر ہا و حرسہ پاں ازاں دراہتہ مکاتیب بسم اللہ می نوشت چوں نازل  
 شد آیت کرمیہ قُلْ۝ دُعُوا اللَّهُ۝ أَوْ۝ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۝ پس می نوشت بسم اللہ الرحمن و چوں نازل شد رائے  
 میں سلیمان و لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پس می نوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم دقتیکہ سورہ علم  
 صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب برست دحیۃ الٹلبی داد و برد بطرف سرقل با دشاد روم فقراء فاذ افیس  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم من همیں بن عبیدا اللہ و رسولہ الی ہرقیل عظیم الرحم سلام  
 علی من اتبع الہیک اما بعد فانی ادعی لک بدل عایۃ الاسلام اسلہ تسلیم بیویتک اللہ  
 اجر لک مرتین و ان تولیت فان علیک اثمرالیریسین و ما اهل الكتاب تعالوا الی کملة  
 سو ای بیننا و بینکم ان لا تعبد الا اللہ ولا تشرک به شيئاً لا یتخذ بعضنا بعضاً  
 ارباباً من دون اللہ فان فقى لوا اشهد دا باتا مسلمون -

فائدہ نصیبہ کلام و مکتوب بسم اللہ مس تجب است اگرچہ مکتوب الیہ و مبیوت الیہ کافر باشد وابتداء  
 کاتب بنام خود در مکاتیب و رسائل مسنون است کہ بخوبی را فلانے نام بسوئے فلانے نام چنانچہ روایۃ  
 از زیع بن اس کہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم و تکریم رسول کیم بوجھے می کر دند کہ حد نداشت  
 دمع ذکار در مکاتیب خود کہ بسوئے رسول مقبول می فرستادند ابتداء بنام خود قبل از نام رسول مقبول  
 صلی اللہ علیہ وسلم می کر دند و بعض علماء رخصت بابتداء نام مکتوب الیہ نیز نمودہ اند چنانچہ منقول  
 شدہ کہ زید بن ثابت مکتوب بسوئے حضرت معاویہ فرستاد پس ابتداء بنام حضرت معاویہ نکرد  
 و در مدرج النبوة درج حدیبیہ آمدہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اطلبیدہ  
 کہ بتویں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسیل گفت ما رحمن رانمی شناکیم و در در دایتے است گفت اما الرحمن الرحیم  
 پس نمی شناکیم ما آک رابتویں باسک ک للہم چنانچہ پیشتر نوشتے و متعارف و معہود در جاہلیت رعنوان  
 مکاتیب نوشتئن ایں کلمہ نہ ہو د بسم اللہ الرحمن الرحیم از وضع دین اسلام است پس مسلمانوں کے قتلہ  
 و اسرار نمی نویسیم الاسم اللہ الرحمن الرحیم ای آخر القصہ پس بسم اللہ نوشتئن در مکاتیب از جملہ مسنونات است  
 زیادہ والسلام :

## مکتوب سی آم بنام مولوی عبید اللہ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد المهم ان اعوذ بالله من ان اشر لک بـ  
انا اعلم به واستغفر له لما لا اعلم به تبت عنـه وتبـرأت ورجـعت من الكـفر والـشر وـالـكـذـبـ  
والـغـيـبةـ والـنـيـمةـ والـبـهـتـاـ والـنـفـاقـ والـمـعـاصـىـ كـلـهـاـ اـقـولـ وـاسـلـمـتـ بـقـولـ لاـ اللهـ الاـ اللهـ هـمـوـںـ  
رسـوـلـ اللهـ . مـوـلـوـیـ صـاـحـبـ عـزـیـزـ اـزـجـانـ حـقـائـقـ وـمـعـارـفـ آـنـگـاهـ مـوـلـوـیـ عـبـدـ اـسـرـ صـاـحـبـ سـلـمـهـ اـسـرـ  
تـعـالـیـ .

از جانب فقیر حقیر لاشے دوست محمد که مشهور به حاجی است کان السـلـمـهـ عـوـضـاـعـنـ کـلـ شـئـیـ پـیـسـ  
از سـلـامـ مـسـنـونـ دـدـعـوـاتـ تـرـقـیـاتـ دـارـیـ مـشـحـونـ مـطـالـعـهـ نـمـایـنـدـ رـشـدـ الـحـمـدـ وـ الـمـنـةـ کـهـ اـحـوـالـ فـقـیرـ بـعـوـنـ قـادـرـ  
قـدـیرـ عـزـ شـانـهـ قـرـیـنـ سـیـاسـ بـیـسـ بـیـسـ مـنـعـمـ حـقـیـقـیـ استـ جـلـ شـانـهـ پـیـوـسـتـ خـبـرـیـتـ عـاـقـیـتـ آـکـ برـادـ رـازـ  
درـگـاهـ رـبـ الـاـکـبـرـ عـزـ اسمـهـ مـسـتـدـعـیـ استـ آـنـ سـمـیـعـ مـحـیـبـ وـبـالـاجـابـهـ قـرـیـبـ .

المـامـ اـیـنـکـهـ قـمـیـهـ کـرـیـمـ کـمـلـ بـرـ اـحـوـالـ پـیـسـ فـقـیرـ کـهـ فـرـسـتـادـهـ بـوـذـنـدـ رـسـیدـ بـیـارـخـوـرـیـ وـخـوـرـنـدـیـ حـلـ گـرـدـیدـ  
اوـتـعـالـیـ شـانـهـ بـاـخـوـدـ دـوـ بـغـیرـ گـذـارـ دـفـقـطـ قـالـ اـسـتـعـالـیـ وـأـعـمـاـلـ بـنـعـمـتـ سـرـتـلـکـ فـحـیـثـ کـهـ ذـکـرـ بـفـکـرـ التـفـاتـ  
جارـیـ باـشـدـ وـبـاـحـصـولـ حـالـتـ سـمـرـهـ . اـسـےـ بـرـدـ مـقـصـوـدـ بـالـذـاـتـ اـذـیـںـ ہـرـ دـوـ بـالـاـمـزـاـسـتـ لـیـکـنـ اـیـںـ  
قـدـرـیـسـتـ کـهـ درـبـنـدـاـرـ ذـکـرـ اـسـمـ اوـتـعـالـیـ شـانـهـ درـ طـافـ وـ حـضـورـ تـفـکـرـ وـ التـفـاتـ مـیـ شـوـدـ جـوـںـ لـاـکـ  
ہـرـ ذـکـرـ مـدـوـمـتـ مـیـ نـمـایـدـ کـارـ اوـبـهـ حـضـورـ دـائـمـیـ مـیـ رـسـدـ لـیـعنـیـ تـوـجـهـ اـلـیـ اـسـرـ بـیـ مـزـاـجـتـ اـغـیـارـ لـکـهـ دـلـ  
گـرـ دـیـسـ رـفـتـرـ فـتـرـ کـارـ اوـذـیـلـ حـضـورـ بـالـاـدـاـقـعـ مـیـ شـوـدـ کـهـ تـعـبـیرـ اـزـ اـلـ هـرـ تـبـهـ بـمـرـبـهـ اـحـسانـ فـرـمـوـهـ اـنـ  
کـهـ الـاـحـسـانـ اـنـ تـعـبـدـ اـدـدـ کـانـکـهـ تـرـاـهـ فـقـطـ

درـبـیـ وقتـ اـزـ آـیـنـدـهـ گـانـ شـنـیـدـ وـ گـرـدـیدـ کـهـ مـوـلـوـیـ غـیـاثـ الدـینـ صـاـحـبـ مـسـائلـ فـرـقـةـ وـہـبـیـہـ  
مـعـتـقـدـاـنـدـ وـکـمـرـدـمـاـلـ بـیـزـآـلـ مـسـائلـ بـیـانـ مـیـ کـنـنـدـ بـنـاـبـرـاـنـ قـلـمـیـ مـیـ شـوـدـ کـهـ بـاـیـدـ وـ شـایـدـ کـهـ اـزـ مـسـائلـ فـرـقـةـ  
وـہـبـیـہـ تـبـرـکـنـدـ وـبـدـلـ اـزـ اـعـتـقـادـ طـائـفـ اـسـمـعـیـلـیـہـ بـےـ زـارـ بـاـشـنـدـ بـرـائـےـ عـملـ وـ صـحـیـتـ اـعـتـقـادـ کـتـبـیـ

مـیـ مـیـ گـوـیدـ مـصـحـحـ کـتـابـ فـقـیرـ عـطـاـ مـحـمـدـ کـانـ اـشـرـلـهـ کـهـ مـرـادـ اـزـ فـرـقـةـ اـسـمـعـیـلـیـہـ طـائـفـ اـسـتـ اـزـ غـیرـ مـقـلـدـیـنـ کـهـ خـوـدـ اـنـسـوـبـ بـهـ  
حضرـتـ شـاـهـ سـعـیـلـ شـمـیدـ توـرـ اـسـمـرـقـدـہـ مـیـ کـنـنـدـ چـنـاـچـیـهـ تـصـرـیـحـ بـاـیـ مـعـنـیـ حـضـرـتـ مـوـلـنـاـ شـمـیدـ اـحمدـ گـنـگـوـیـ نـدـسـ سـرـهـ درـفـتـاـوـیـ خـودـ کـرـدـهـ  
استـ دـبـالـمـعـرـفـینـ وـصـلـیـ اـسـتـعـالـیـ عـلـیـ نـیـزـ خـلـفـهـ مـحـمـدـ دـالـهـ وـ صـحـیـهـ الجـمـعـیـنـ . ۵ـاـرـ رـبـیـعـ اـلـاـوـلـ ۱۳۸۳ـھـ

سلفِ صالحین اہل سُنت و جماعت شکر اسریعیم کافی اند آں را پیش گیرند و ان رئائل  
فرقہ و مہابیہ و اعتقاد اوس تاش بیزار باشند اگر مے خواہی کہ اثر قوتیہ پیران کب ارادت دنیا الہ تعالیٰ  
با سر اسکم الاقدس در خود مثالاً بدہ کنم پس باید و لازم کہ ظاہر و باطن در یہہ مسائل عملیہ و اعتقادیہ  
متابع است اوس تاش سازند انشا اس دنیا تعالیٰ مشہر نتائج حقیقت معرفت حق تعالیٰ جل جلالہ  
و عجم نوالہ خواہد شد۔ قل السربس و ما سواه عبّث و ہوس و نقطع علیہہ انس فقط والسلام خیر الختام  
المرقوم بتائیخ بیت سویم ماہ شوال ۱۲۶۹ھ سلیمانیہ، بحری:

تمام شد

---

## تاریخ و صائل شیخ المشائخ

### حضرت حاجی دوست محمد صاحب

قلیل اللہ رحیم رک

اے درینغا صوفی شیخ زمان	پیشوائے سالکان و عارفان
مرشدِ کامل مکمل ذوالورع	قطبِ عالم بود افرادِ جہاں
بایزید و تم حنفیہ وقت بود	مے سندگر و صفت اوسانہم چنان
از طفیل بو سعید احمد سعید	عالیے پر نور شد از فیض آں
فیض او چوں فیض شاہ نقشبند	نقشبندی کرد قلب عارفان
حاجی حضرت محمد دوست بود	نام او چوں شمس روشن در جہاں
چوں زدنیا دار فانی رخت بست	آمدہ درگریہ جبلہ انس و جان
<u>آفتابے معرفت</u> تاریخ او	ہاتھے از غیب گفتہ ناگہماں
احمد اتوکے رسی در وصفی او	
فیض بے پایاں زر و حش پاک خواں	

---

# فواردِ عثمانیہ و مکتوبات

مہولات و ملفوظات و مکتوبات حضرت خواجہ عثمان قدس سرہ کا متبرک  
مجموعہ جو کہ نہایت دیدہ زیب طباعت و عمدہ کاغذ پر محس برائے افادہ  
منتسبین حضرات کرام کے طبع کرایا گیا ہے۔ بقیمت چار روپے علاوہ  
محصول ڈاک کے پستہ ذیل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نیز یہ کتاب  
بھی اسی پستہ سے مل سکتی ہے۔ فقط

حافظ محمد نصراللہ خاں خاکواني معرفت دکان حاجی غلام حیدر خاں  
غلہ منڈی  
بس اول نگر

(صدیقیہ پریس ملتان شہصا)